

پرانی مشکلیں

اور

نئی سے

خداوند یسوع مسیح نے کیسے عہد عتیق کی شریعت کو پورا کیا

اور

اب وہ ہم سے کیا توقع کرتا ہے۔

مصنف: ایف۔ وین۔ میک لائیڈ

مترجم: عمانوئیل داؤد

Light To My Path Book Distribution

Sydney Mines, NS Canada

پرانی مشکلیں اور نئی سے

پرانی مشکلیں اور نئی سے

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں۔

کاپی رائٹس 2007 بحق مصنف ایف۔ وین۔ میک لائیڈ محفوظ ہیں۔

چونکہ اس کتاب کے تمام جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں، اس لئے کتاب کا کوئی بھی حصہ مصنف کی تحریری اجازت کے بغیر شائع نہ کیا جائے۔

”لائٹ ٹومائے پاتھ بک ڈسٹری بیوشن“ نے یہ کتاب (انگریزی زبان میں) 153 الملائک سٹریٹ، سڈنی مانز، این ایس کینیڈا بی آئی وی 1y5 سے شائع کی۔

پبلشر سے پہلے تحریری منظوری کے بغیر کسی سٹلم میں محفوظ کرنا یا کسی بھی مقصد کی خاطر کہیں منتقل کرنا یا کسی برقیاتی یا مشینی طریقہ سے اس کی عکاسی کرنا سخت منع ہے۔ مگر قارئین کرام اور خادم الدین چھوٹا اکتباس کہیں تہرہ یا جائزہ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔

پرانی مشکلیں اور نئی سے

نام کتاب
مصنف
پرانی مشکلیں اور نئی سے
ایف۔ وین۔ میک۔ لائیڈ

مترجم
کمپوزنگ
پروف ریڈنگ
عمانویل داؤد
عمانویل داؤد
مسز رضیہ مسکان

سن اشاعت
تعداد
ہدیہ کتاب
اگست 2010
ایک ہزار
پچاس روپے

رابطہ:

عمانویل داؤد

فون نمبرز 0312- 4414069 - 0300- 4414069

ای میل ایڈریس۔ mathew_forjesus@yahoo.ca

پرانی مشکلیں اور نئی سے

فہرست مضامین

صفحہ نمبر

- | | |
|----|-------------------------------|
| 6 | پیش لفظ |
| 8 | 1: شریعت کی مہربانی |
| 13 | 2: درست اور غلط کی پہچان |
| 16 | 3: خدا کے حضور جو ابدی |
| 19 | 4: ضرورت کا مکاشفہ |
| 24 | 5: آنے والی چیزوں کا ٹکس |
| 32 | 6: خدا کے حضور راستباز ٹھہرنا |
| 37 | 7: نئی کہانت |
| 41 | 8: نیا دل |
| 45 | 9: گناہ پر فتح |
| 51 | 10: فضل سے نجات |
| 55 | 11: شریعت کی موت |
| 58 | 12: شریعت بطور ہماری سرپرست |
| 62 | 13: نیا رہنما |
| 69 | 14: روح میں چلنا |

76	5 روح کے تقاضے
80	16: اختلافات ختم کریں
88	17: دوسروں سے کریں
91	18: رحم
95	19: دل کا رویہ
99	20: محبت
102	21: آخری بات

پیش لفظ

کوئی شخص بھلا کیوں خدا کی شریعت کے موضوع پر غور و فکر کرنے والے عمیق سلسلہ تعلیم میں دلچسپی لے گا؟ بلاشبہ مسیحی رفاقتی جماعتوں میں یہ دلچسپی کا حامل اور ترجیح یافتہ موضوع نہیں ہے۔ زیر نظر کتاب کا مزید مطالعہ ترک کرنے سے جو شتر اس حقیقت پر دھیان دیں کہ جب خدا نے خود کو ظاہر کرنا چاہا تو یہ شریعت ہی تھی جس کے وسیلہ سے خدا نے انسان پر اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ شریعت میں خدا، اُس کے مقصد اور منصوبہ کے بارے میں ہمیں تعلیم دینے کے لئے بہت کچھ موجود ہے۔ اس میں انسانی فطرت کے بارے میں سکھانے کے لئے بھی بہت کچھ پایا جاتا ہے۔ شریعت ہی نے لوگوں کو اس بات کی تعلیم، ہدایت اور رہنمائی دی کہ وہ کیسے خدا کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر سکتے ہیں۔ شریعت خداوند یسوع مسیح کے کام کی ضرورت کو بھی ہم پر عیاں کرتی ہے۔ شریعت کے پیغام کو پورے طور پر سمجھے بغیر ہم اپنی حالت کو بہتر طور پر سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ جب تک ہم اپنی حالت کو شریعت کے تقاضوں کی روشنی میں نہ دیکھیں اُس وقت تک ہم نجات دہندہ کو بھی نگاہِ قدر سے نہیں دیکھ سکتے۔

مذکورہ بالا نکات کے پیش نظر ہمیں متی 17:9 میں خداوند یسوع مسیح کی بات پر بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔

اور نئی سے پرانی مشکلوں میں نہیں بھرتے ورنہ مشکلیں پھٹ جاتی ہیں اور سے بہہ جاتی ہے اور مشکلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ بلکہ نئی سے نئی مشکلوں میں بھرتے ہیں اور وہ دونوں بچی رہتی ہیں۔

پرانی مشکلیں سخت اور اس قدر سخت حال ہو جاتی تھیں کہ آسانی سے ٹوٹ سکتی تھیں۔ جبکہ نئی سے میں پھیلنے کی خاصیت پائی جاتی تھی۔ جب نئی سے پرانی، سخت اور سخت حال مشکلوں میں انڈلی جاتی اور یہ پھیلتی تو مشکلیں پھٹ جاتیں اور سے بہہ جاتی تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں پر اس بات کو ظاہر کرنے کیلئے یہ تمثیلی استعمال کی کہ اُس کی آمد کے بعد صورتحال اور تقاضے یکسر تبدیل ہو جائیں گے۔ انہیں اب پرانے طور طریقوں کے مطابق زندگی نہیں گزارنا تھی اور نہ ہی انہیں عہدِ متیق کی شریعت کا اُن نئے طریقوں پر اطلاق کرنا تھا جن کو خداوند یسوع اُن پر ظاہر کرنے کو

تھا۔ چونکہ مسیح آچکا ہے، عہد عتیق کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنا نئی سے پرانی مٹھلوں میں انڈیلے کے مترادف ہوگا۔

یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ عہد عتیق کی شریعت نے ایک اہم مقصد پورا کیا۔ مسیح خداوند اپنے صلیبی کام کی بنیاد پر ایک اہم تبدیلی کا سبب بنے۔ عہد جدید کے ایماندار اب ایک نئی شریعت کے ماتحت ہیں۔
زیر نظر کتاب میں ہم مطالعہ کریں گے:
✽ عہد عتیق کی شریعت کا مقصد
✽ اور یہ کہ کیسے اُس نے مسیح کی طرف ہماری رہنمائی کی۔

ہم اس کتاب کے مطالعہ سے اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کیسے خداوند یسوع مسیح نے عہد عتیق کی شریعت کو پورا کیا اور اب خدا ہم سے کیا توقع کرتا ہے۔ میری دُعا ہے کہ اس کتاب کا مختصر مطالعہ آپ کو اس بات کا گہرا فہم و ادراک بخشنے کہ آپ عہد عتیق کی شریعت کے مقصد کو سمجھتے ہوئے دور جدید میں مسیح کے صلیبی کام کو نگاہِ قدر سے دیکھ سکیں۔

شریعت کی مہربانی

یہ نہ سمجھو کہ میں تو ریت یا نیروں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ کیوں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ تو ریت سے ہرگز نہ ملے گا، جب تک کہ سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ (متی 5: 17-18)

جب آپ قانون کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا ہمارے دور میں قانون ایک ایسا لفظ نہیں جس میں سختی اور منفی مفہوم پایا جاتا ہے؟ بہتوں کے نزدیک قانون معاشرے میں پائی جانے والی خرابی کا جزو لازم ہے جس نے گناہ کو پانی کی طرح پی رکھا ہے۔ قانون کا تصور آزادی ہمارے فہم و ادراک سے قطعی مختلف ہے۔ صبح کے وقت ہم اس خیال سے دیر تک سوئے رہتے ہیں کہ ہم تیز رفتار ڈرائیونگ کرتے ہوئے اپنے آفس یا کام کی جگہ پہنچ سکتے ہیں۔ اس خیال سے تاخیر سے پہنچنے کی عادت میں قانون کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ کیا یہ قانون ہی نہیں جس کے وسیلہ سے ہماری انتھک محنت سے کمائی گئی آمدن چھین لی جاتی ہے؟ حکومت کی افسر شاہی اور کرنا دھرتا ضابطہ پرست لوگ جن کو قانون نے ہم پر مسلط کر رکھا ہے، ہماری بھلائی سے زیادہ ہماری ترقی میں رکاوٹ دکھائی دیتے ہیں۔

کئی دفعہ میں نے خود کو ٹریفک کے اُس سرخ اشارے پر کھڑے دیکھا ہے، جہاں سے پیدل چلنے والے سڑک عبور کرتے ہیں۔ جبکہ دونوں اطراف سے کوئی بھی گاڑی نہیں آرہی ہوتی تھی۔ دوسروں پر توجہ دے بغیر سرخ روشنی کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے اپنے آپ سے کہا، ”کیوں میں قانون کی تعمیل کرنے کی زحمت اٹھاؤں؟“ بنی نوع انسان پابندیوں اور ضابطوں میں رہنے کی بہ نسبت آزادی کی جستجو میں رہتے ہیں۔ اصول اور قواعد و ضوابط تو گویا ہم پر بار ہیں۔ حتیٰ کہ اپنی مسیحی زندگی میں چلتے ہوئے بھی ہم اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہم اُن شرعی تقاضوں سے آزاد زندگی گزاریں جو ہم پر مسلط کئے گئے ہیں۔ اگرچہ ہم اس بات کو پورے طور پر نہیں سمجھتے تو بھی ہم روح کی رہنمائی

میں چلنے کے تصور سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔

ہر وہ شخص جس نے عہدِ متیق کا مطالعہ کیا ہے انہیں شریعت اور اُس کے تقاضوں کے بارے میں معلوم ہے جو خدا نے اپنے لوگوں کے لئے مقرر کئے ہیں۔ تقریباً ہر ایک یہودی اصول و ضوابط اور قوانین سے مغلوب نظر آتا تھا۔ اُن تو اعدوِ ضوابط اور اصول و قوانین کے تحت یہ طے شدہ باتیں تھیں کہ کون کس سے شادی کر سکتا ہے۔ لوگوں کو کیا کھانا چاہئے، کیسے عبادت کرنی چاہئے۔ اور کون لوگوں کے ساتھ انہیں رشتے نا طے قائم کرنے چاہئے۔ یوں لگتا ہے کہ یہودی لوگوں کیلئے ہر کام کے واسطے ایک شریعت موجود تھی۔

کیا قانونِ معاشرے میں پائی جانے والی خرابی کا لازمی حصہ ہے؟ متی 5:17-19 اپنے مطالعہ کا آغاز کے لئے ایک اچھا مقام ہے۔ ان دو آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے بنی اسرائیل کو دی جانے والی شریعت کے بارے میں کیا محسوس کیا اور کیا تعلیم دی؟ خداوند یسوع مسیح نے ان دو آیات میں شریعت کے بارے میں دو اہم نکات بیان کیے۔

سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح یہ بتاتے ہیں کہ وہ شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آئے۔ اس سے ہمیں شریعت کے بارے میں خداوند یسوع مسیح کے ردِ یہ کہ بارے میں علم ہوتا ہے۔ اگر شریعت کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوتی تو خداوند یسوع مسیح اُسے ایک بے کار چیز کی مانند کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہ کرتے۔ لیکن درحقیقت ایسا نہیں تھا۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں بتاتے ہیں کہ اُس کے آنے کا مقصد شریعت کو منسوخ نہیں بلکہ اُسے پورا کرنا تھا۔ خداوند یسوع مسیح اس بیان میں اپنی خدمت کو مختصر بیان کرتے ہیں۔ آئیں کچھ دیر کے لئے لفظ منسوخ اور پورا کرنا پر غور کریں۔

ہم اُس چیز کو منسوخ کرتے ہیں جو نقصان دہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر شمالی امریکہ میں انیسویں صدی میں غلامی کا دور اختتام کو پہنچا۔ کیوں کہ لوگوں نے اُسے ایک ایسی برائی کے طور پر پہچانا جو انسانی زندگی کی قدر و قیمت کو داغ دار کرتی ہے۔

اس کے برعکس ہم کہتے ہیں کہ میں نے اس چیز کو پورا کیا ہے۔ بالخصوص جب ہم نے اپنے ذمہ لیے گئے منصوبہ کے

پرانی مشقیں اور نئی سے

تمام تقاضے پورے کر دیئے ہوتے ہیں۔ کسی بھی طالب علم یا طالبہ کے لئے گریجویٹ ہونے سے قبل تمام تعلیمی تقاضے پورے کرنا لازمی امر ہے۔

منسوخ اس چیز کو کیا جاتا ہے جسے بڑا خیال کیا جاتا ہے۔ پورا کرنے سے مراد تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے کسی کام کے مقصد کے پیش نظر اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔

یہودی قوم کو جو شریعت دی گئی تھی خداوند یسوع اس کو نگاہ قدر سے دیکھتے تھے اور ان کے دل میں اس کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ اس دنیا میں خداوند یسوع مسیح کے آنے کا مقصد شریعت کو ایک بڑی چیز سمجھتے ہوئے منسوخ کرنا نہیں بلکہ اسے پورا کرنا تھا۔ یعنی اچھی شریعت کے طور پر اس کے تمام تقاضے ہمیشہ کے لئے پورے کرنا ہی ان کی آمد کا نصب و العین تھا۔

اب ہم خداوند یسوع مسیح کے متی 18:5 میں بیان پر غور کریں گے۔

کیوں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ تو ریت سے ہرگز نہ ملے گا، جب تک کہ سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔

خداوند یسوع مسیح یہاں پر واضح اور تفصیل سے اس بات کو عیاں کر رہے ہیں کہ خدا کی شریعت میں کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی جسے انہوں نے پورا نہیں کرنا تھا۔ خداوند یسوع مسیح اس بات کے لئے مصمم ارادہ رکھتے تھے کہ وہ شریعت کی ایک ایک بات اور تقاضے یعنی چھوٹے بڑے سب تقاضے پورے کریں گے۔ شریعت کا کوئی بھی ایسا جزو نہیں ہوگا جسے وہ آسمانی باپ کی تسلی کے لئے پورا نہیں کریں گے۔ بلکہ شریعت کا ہر ایک تقاضا پورا ہوگا۔ تمام نکات کا احاطہ کیا جائے گا۔ کوئی کام یا تقاضا ادھورا نہیں چھوڑا جائے گا۔ ہر ایک کام پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ آسمانی باپ سو فیصد مطمئن ہونگے۔ اس سے ہمیں شریعت کے بارے میں خداوند یسوع مسیح کے نکتہ نظر کے بارے میں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے خدا کی شریعت کے تمام نکات کو انتہائی اہم اور لازمی جزو کے طور پر دیکھا۔ خدا کی شریعت بدکار اور بد عنوان معاشرے میں ایک خرابی سے کہیں بڑھ کر تھی۔ یہ بنی نوع انسان کیلئے خدا کے منصوبے کا

پرانی مٹھلیں اور نئی سے

ایک جزو لازم تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے اڑلی اور ابدی باپ کی تسلی کے لئے اپنی زندگی اور موت سے تمام نکات اور ہر ایک تقاضا کو پورا کر دیا۔

یہودی قوم کو دی جانے والی خدا کی شریعت اچھی تھی۔ مسیح نے اُسے بہت زیادہ اہمیت دی۔ بنی نوع انسان کیلئے خدا کے منصوبہ میں یہ خاص اہمیت کی حامل تھی۔ اگلے چند ابواب میں ہم اسکے مقصد کا جائزہ لیں گے۔

خدا کی شریعت کا مقصد

عہدِ عتیق کی شریعت کیوں ضروری تھی؟ خدا نے ایک ایسی قوم کو شریعت کیوں دی جس کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ وہ اُس پر عمل پیرا نہ ہو سکیں گے؟ اس حصہ میں ہم دیکھیں گے کہ بنی نوع انسان کے لئے خدا کے مقصد کے ظاہر ہونے میں عہدِ عتیق کی شریعت ایک لازمی قدم تھا۔

درست اور غلط کی پہچان

کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اُس کے حضور راسخا نہیں ٹھہرے گا۔ اس لئے کہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے۔ (رومیوں 3:20)

کیوں کہ اگر شریعت والے ہی وارث ہوں تو ایمان بے فائدہ رہا اور وعدہ لا حاصل ٹھہرا۔ کیوں کہ شریعت تو غضب پیدا کرتی ہے۔ اور جہاں شریعت نہیں وہاں عدول حکمی بھی نہیں۔ (رومیوں 4:14-15)

موت کا ڈنک گناہ ہے۔ اور گناہ کا زور شریعت ہے۔ مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشا ہے۔ (1- کرنتھیوں 15:56-57)

کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ شریعت کے بغیر زندگی کیسی ہوتی؟ شریعت کے بغیر لوگ وہی کرتے تھے جو انہیں اچھا لگتا تھا۔ ایک لمحہ کیلئے غور کریں کہ اگر لوگوں کو ٹریفک کے قواعد و ضوابط کا پابند نہ بنایا جاتا تو آپ کی سڑکوں پر ٹریفک کی صورتحال کیسی ہوتی۔ یا آپ کبھی کسی ایسے چوراہے پر آکھڑے ہوئے ہیں جس کی ٹریفک لائٹ خراب ہوگئی ہو؟ نتیجہ آپ کے تصور کے مطابق بہت بھیانک ہوگا۔ بے ہنگم ٹریفک کے سبب لوگ بدحواس ہونگے اور چوراہے میں سے بڑی تنگ وڈو کے ساتھ راستہ بناتے ہوئے آگے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ آپ ادھانی کا ماحول بن جائے گا، جس میں کسی کو کسی کی کوئی پرواہ اور فکر بالکل نہ ہوگی۔ قاضیوں کے دور میں، جب اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا تھا، (بادشاہ شریعت کی نمائندگی کرتا تھا) بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ لوگوں کا طرز عمل بالکل ایسا ہی تھا۔

اُن دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا۔ ہر ایک شخص جو کچھ اُس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا تھا وہی کرتا تھا۔

(قضایا 21:25)

پرانی مہکتیں اور نئی سے

کسی قانون یا شریعت کے بغیر درست اور غلط کی کوئی پہچان نہیں ہوتی بلکہ افراتفری اور اہتری کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ پولیس کی نفری بھی اُن لوگوں کو سنبھالنے کے لئے ناکافی ہوتی ہے جو موجودہ قوانین کو نظر انداز کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر درست اور غلط رویوں کی تشریح اور وضاحت کے لئے کوئی قانون نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟

دو جہد میں اخلاقیات کی صورتحال کے پیش نظر ہم نے دیکھا ہے کہ حالیہ سالوں میں جیسے جیسے قوانین نے ہم جنس پرستی، اطفال حمل اور نفس نگاری کو توڑی ڈھیل دی ہے تو ان کے منفی اثرات ہمارے معاشرے میں بہت حد تک بڑھ گئے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قانون لوگوں پر اپنا اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ قانون ہمارے ذہنوں میں درست اور غلط کا شعور جاگرتا ہے۔ ہمیں اس لئے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں کام غلط ہے کیوں کہ اُس کے خلاف ایک قانون یا ضابطہ مقرر ہوتا ہے۔

مقدس پولس رسول رومیوں 20:3 میں، روم میں موجود ایمانداروں کو یہی بتا رہے تھے کہ شریعت کے وسیلے سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے۔ پرانے عہد نامہ میں خدا کی شریعت کا ایک مقصد لوگوں کو گناہ کے بارے شعور بخشنا تھا۔ خدا کی شریعت نے لوگوں پر یہ ظاہر کیا کہ خدا اپنے لوگوں سے کیا توقع کرتا ہے اور یہ کہ درست اور غلط رویوں کے بارے میں اُس کی سوچ کیا ہے۔

مقدس پولس رسول نے رومیوں 15:4 میں، روم کے ایمانداروں کو یہ بتایا کہ ”جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ بھی محسوب نہیں ہوتا۔“ بالفاظ دیگر جہاں شریعت نہیں وہاں ہم من مرضی کرنے کیلئے آزاد ہوتے ہیں۔ پس خدا کی شریعت ایک طے شدہ معیار ہے جس کے عین مطابق خدا اپنے لوگوں سے زندگی بسر کرنے کی توقع کرتا ہے۔

1۔ کرنتھیوں 56:15 میں، پولس رسول مزید بیان کرتے ہیں۔ ”گناہ کا زور شریعت ہے۔“ جہاں شریعت ہوتی ہے، وہاں گناہ بھی عیاں ہو جاتا ہے۔ شمالی امریکہ جہاں میری موجودہ رہائش ہے۔ تقریباً پچاس سال پہلے ازدواج کے بندھن کے بغیر جنسی تعلقات ناپاک اور مکروہ فعل سمجھے جاتے تھے۔ اب چونکہ ہم بائبل مقدس کی تعلیم سے بھلک گئے ہیں، اب ہمارا معاشرہ ازدواجی بندھن کے بغیر جنسی تعلقات استوار کرنے میں قطعاً کوئی شرم اور جھجک محسوس

پرانی مہکتیں اور نئی سے

نہیں کرتا۔ جو کچھ ہم ٹیلی ویژن پر دیکھتے اور خبر نامہ میں سنتے ہیں اس سے ہمیں کچھ خوف نہیں آتا۔ اب ہم اپنی شراب و کباب کی محفلوں کے بارے میں بڑی دیدہ دلیری اور شہنی سے باتیں کرتے اور اپنی بد فعلیوں اور بد کاریوں پر بغیر شرم محسوس کئے بات چیت کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لئے کہ اب ہم گناہ کو خدا کی شریعت کی روشنی میں نہیں دیکھتے۔ اب ہم نے اپنی روزمرہ زندگی اور معاشرے میں نام و مقام پیدا کرنے کیلئے اپنے معیار اور طریقہ کار وضع کر لیے ہیں۔

جب ہم خدا کی شریعت کی ہدایت اور روشنی میں اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو تب ہی ہمیں اس کی اصل تصویر دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہم گناہ کو اس کی تمام مکروہیت میں دیکھتے ہیں۔ خدا کی شریعت ہمیں سیاق و سباق کے ساتھ ایک ایسا طریقہ کار مہیا کرتی ہے جس سے ہم درست اور غلط میں امتیاز کر سکتے ہیں۔ عہد عتیق میں خدا کی شریعت کا اولین مقصد اپنے لوگوں کو درست اور غلط کے بارے میں آگاہی اور شعور دینا تھا۔ اور ان پر اس بات کو عیاں کرنا تھا کہ خدا اپنے لوگوں سے بطور اپنی قوم کیا توقع کرتا ہے۔

خدا کے حضور جوابدہی

اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے اُن سے کہتی ہے جو شریعت کے ماتحت ہیں تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے۔ (رومیوں 3:19)

کیوں کہ شریعت کے دیئے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا۔
(رومیوں 5:13)

قانون کے بغیر لوگ اپنی من مانی کرنے کے لئے آزاد ہوتے ہیں۔ کوئی حدود و قیود نہیں ہوتیں۔ قانون اخلاقی اور قانونی ضابطے پیدا کرتا اور ہم سے ہمارے اعمال و افعال کے بارے میں جوابدہی کرتا ہے۔

قانون کے پیش نظر لوگوں کو اپنے کاروبار کے تعلق سے ایک خاص دستور العمل اور ضابطہ اپنانا پڑتا ہے۔ کاروبار کرنے والے خواتین و حضرات قانون کے سامنے اپنی کاروباری سرگرمیوں اور فرائض کے بارے میں جوابدہ ہوتے ہیں۔ ٹریڈک قوانین ہمیں اس بات کے لئے جوابدہ بناتے ہیں کہ ہم اپنی گاڑی کس طرح چلاتے ہیں۔ قانون ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنے اعمال و افعال کے بارے میں دوسروں کو جوابدہ ہوں۔ کسی بھی طرح کی قانونی خلاف ورزی ہمیں صاحب اختیار لوگوں کے سامنے جوابدہ بناتی ہے اور ہم اپنی نافرمانیوں کے نتائج کا خمیازہ بھگتتے ہیں۔

ہمارے ملکی قوانین ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اس بات کیلئے جوابدہ ہوں کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، ہم اپنی گاڑی کیسے چلاتے اور یہ کہ ہم دوسروں کی املاک و جائیداد اور حقوق العباد کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ قوانین ہمیں اس بات کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ ہم نے اپنے روپے پیسے کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ ہمارا ذمہ

پرانی مشقیں اور نئی سے

اپنے بچوں اور شریک حیات کے ساتھ کیسا ہے۔ قانون ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنے رُو یہ کے تعلق سے ایک مخصوص نمونہ اپنائیں جو کہ مجموعی طور پر معاشرے کی فلاح و بہبود کے لئے ہو۔

رومیوں 3:19 میں پولس رسول بتاتے ہیں کہ شریعت اس لئے دی گئی تاکہ دنیا خدا کے سامنے سزا کے لائق ٹھہرے۔ (جو ابدہ ہو) یونانی کا وہ لفظ جس کا ترجمہ جو ابدہ کیا گیا ہے اُس کا معنی ہے مقروض، قرضدار یا ایسا شخص جو کسی کی تسلی کا مقروض ہو۔ خدا کی دی ہوئی شریعت نے لوگوں کو خدا کا مقروض کر دیا ہے۔ پچھلے باب میں ہم نے دیکھا کہ شریعت نے ہمیں درست اور غلط کا شعور بخشا ہے۔ شریعت نے اس سے بڑھ کر کیا۔ شریعت نے خدا کے لوگوں کو ایک ذمہ داری کے ماتحت کر دیا۔ خدا کی شریعت نے بنی اسرائیل کو اُن کے طرز زندگی کے بارے میں جو ابدہ ہی کے ماتحت کر دیا۔ شریعت نے اُن کے سامنے ایک معیار مقرر کر دیا اور پھر فرد واحد سے اُس معیار کی خلاف ورزی کیلئے شخصی جو ابدہ ہی کا تقاضا کیا۔

آپ کے پاس یہ انتخاب نہیں کہ آپ شریعت کو پسند یا ناپسند کریں یا اُس کے ساتھ متفق یا غیر متفق ہوں۔ بہت سے ایسے قوانین ہیں جنہیں ہم قطعاً پسند نہیں کرتے۔ لیکن چار و ناچار ہمیں اُن کی پابندی اور پاسداری کرنا ہی پڑتی ہے۔ خدا نے بطور خالق و مالک کچھ ایسے معیار اور ضابطے مقرر کر دیئے ہیں جن کے تحت اُس کی دنیا کا نظام رواں دواں ہے۔ وہ اپنی شریعت کے بارے اور کسی بھی قسم کی نافرمانی کی صورت میں ہم سے جو ابدہ ہی کرے گا۔ ہمارے معاشرے کا اُلہیہ یہ ہے کہ انسانوں کا تشکیل دیا گیا نظام حکومت کبھی بھی خدا کے ساتھ متفق نہیں ہوتا۔ ہمارے ملکوں میں وضع کیے گئے قوانین ہمیشہ اُن قوانین اور قواعد و ضوابط سے بالکل متضاد ہوتے ہیں جو خدا نے اپنے کلام میں درج کروائے ہیں۔ چونکہ خدا ہی خالق و مالک ہے، اس لئے اُس کے پاس ہی درست اور غلط کا حتمی فیصلہ ہے، اور وہ ہی ہمارے افعال و اعمال کے بارے میں ہم سے جو ابدہ ہی کرے گا۔ حتیٰ کہ اگر ہمارا معاشرہ کسی غلط کام کو جائز قرار دے کر اُس کو کرنے کی اجازت دے بھی دے، (جبکہ وہ خدا کے کام کے خلاف ہو) تو اس صورت میں بھی ہم خدا کے حضور جواب دہ ہوں گے۔

بچ پوچھیں، کئی دفعہ تو مجھے بھی مکمل طور پر اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ کیوں خدا نے بعض کاموں کو غلط قرار دیا ہے۔

پرانی مقلبتیں اور نئی سے

درحقیقت یہ انسان کی ذمہ داری نہیں کہ وہ درست اور غلط کا تعین کرے۔ خدا کا اپنا ایک معیار ہے جس کے تحت وہ اپنی اس کائنات کا نظام چلانا چاہتا ہے۔ خواہ میں اُس معیار کو سمجھوں یا نہ سمجھوں۔ پھر بھی میں اُس کے معیار کی پیروی کے لئے جو ابدہ ہوں۔

پولس رسول نے رومیوں 13:5 میں اپنے قارئین کو بتایا کہ شریعت سے پہلے گناہ محسوب نہیں ہوتا تھا۔ اس آیت کو سلیس انداز میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ شریعت دیے جانے سے قبل لوگوں کو خدا کے حضور اپنی ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنی زندگی من چاہے معیار کے مطابق گزارتے تھے۔ کیوں کہ انہیں خدا اور نہ ہی اُس کے قوانین اور معیار کے تعلق سے کوئی فکر ہوتی تھی۔ وہ اپنے گناہ کو خاطر میں نہ لاتے تھے اور انہیں اس بات کا احساس تک نہ تھا کہ وہ اپنے افعال اور اعمال کے بارے میں خدا کے حضور جو ابدہ ہوں گے۔

شریعت کے آنے سے لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ اُن پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے خالق کے حضور ایک مخصوص طرز زندگی اپنائیں۔ شریعت نے پہلی دفعہ اُن پر یہ ظاہر کیا کہ وہ اپنے طرز زندگی کے بارے میں خدا کے حضور جو ابدہ ہوں گے۔

عہدِ عتیق میں خدا کی شریعت ہمیں اس لیے دی گئی تھی کہ ہم پر یہ بات عیاں ہو جائے کہ ہم خدا کی مخلوق ہوتے ہوئے اپنے طرز زندگی کے بارے میں خدا کے حضور جو ابدہ ہوں گے۔ خدا کی شریعت نے اُس کے لوگوں کو اُس کے اختیار کے ماتحت کر دیا اور اُن سے اس کے مقاصد کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کے بارے میں جو ابدہ ہی کا تقاضا کیا۔

ضرورت کا مکاشفہ

مگر اسرائیل جو راستبازی کی شریعت کی تلاش کرتا تھا اُس شریعت تک نہ پہنچا۔ (رومیوں 9:31)

کیوں کہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی وہ سب باتوں میں قصور وار ٹھہرا۔
(یعقوب 2:10)

دیکھ میں نے ہدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ (زبور 51:5)

ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ خدا کی شریعت ہمیں درست اور غلط کے بارے میں شعور اور آگاہی دیتی ہے اور ہم پر عیاں کرتی ہے کہ ہم خدا کے حضور اپنے اعمال و افعال کے لئے جوابدہ ہیں۔ یہاں اس باب میں ہم عہدِ عتیق میں دی جانے والی شریعت کے ایک اور اہم مقصد کو دیکھیں گے۔ اور وہ یہ کہ اُس کا مقصد ہم پر ہماری ضرورت کو آشکارا کرتا تھا۔

پرانے عہد نامہ میں جو لوگ شریعت کے ماتحت زندگی گزارتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ وہ خدا کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کی دو بڑی وجوہات درج ذیل ہیں۔

اول: خدا کی مکمل خوشنودی حاصل کرنے کیلئے کامل طور پر بلا تفسیر خدا کی شریعت کی تعمیل کرنا لازم تھا۔ یعقوب 2:10 میں رسول نے لکھا۔

کیوں کہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی وہ سب باتوں میں قصور وار ٹھہرا۔
(یعقوب 2:10)

پرانی مہکلیں اور نئی سے

یہ بہت اہم بیان ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم شریعت کے کسی چھوٹے سے چھوٹے نقطہ کی حکم عدولی کر دیں تو ہم خدا کے حضور مجرم ٹھہرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، کہ آپ عمر بھر صحت مند اور تندرست و توانا رہے ہیں۔ ایک روز اچانک آپ کسی مہلک بیماری کا شکار ہو جائیں۔ ساری عمر تندرست اور صحت مند رہنے کی حقیقت اس بیماری کی حالت میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ حقیقت اور سچائی تو یہ ہے کہ آپ اس وقت اس مہلک بیماری کی وجہ سے قریب المرگ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جراثیم جو اس بیماری کا باعث بنا ہے اس قدر چھوٹا ہو کہ آپ کو خوردبین سے دیکھنا پڑے۔ لیکن یہ جراثیم خواہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، آپ سے زندگی چھین رہا ہے۔ گناہ کا بھی یہی معاملہ اور حقیقت ہے۔ ایک چھوٹا سا گناہ بھی ہمیں خدا کے حضور مجرم ٹھہرانے کیلئے کافی ہوتا ہے۔

یعقوب رسول 10:2 میں ہمیں یہی بتاتا ہے کہ اگر ہم خدا کی شریعت کے کسی ایک چھوٹے سے حکم کی تعمیل نہ کر پائے تو ہم مجرم ٹھہریں گے۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ شریعت کا وہ حکم کس قدر چھوٹا معلوم ہوتا ہو۔ اگر آپ نے اس کی تابعداری نہ کی تو آپ خدا کے حضور مجرم ٹھہریں گے۔ اور آپ کو خدا کی عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے کامل طور پر شریعت پر عمل کیا ہے؟

دوم: دوسری وجہ کہ کیوں پرانے عہد نامہ کی شریعت کے تحت زندگی بسر کرنے والوں کے لئے خدا کی خوشنودی حاصل کرنا ممکن نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سب گناہ آلودہ فطرت کے ساتھ پیدا ہوئے تھے۔ غور سے دیکھیں کہ زبور نویس کیا کہتا ہے۔

دیکھ میں نے ہدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ (زبور 5:51)

کیا آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ آپ کو کسی چھوٹے بچے کو یہ سکھانا نہیں پڑتا کہ اُس نے کیسے گناہ کرنا ہے۔ یہ فطری طور پر اُس کے کردار اور زندگی کا حصہ ہوتا ہے۔ آپ کو قطعاً بچے کو یہ سکھانا نہیں پڑتا کہ وہ کیسے خود غرض بنے یا کیسے جھوٹ بولے۔ آپ کو بچوں کو یہ سکھانا پڑتا ہے کہ انہوں نے کیسے نیکی اور بھلائی کی طرف راغب ہونا ہے۔ کیوں کہ برائی تو فطری طور پر اُن کے کردار کا خاصہ ہوتی ہے۔

یہ ساری باتیں بہت اہم ہیں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص کبھی بھی مکمل طور پر خدا کی شریعت پر عمل پیرا

پرانی مقلکیں اور نئی سے

نہیں ہو سکا۔ ہم میں سے ہر ایک نے کسی نہ کسی وقت شریعت کی نافرمانی کی ہے۔ ہم سب خدا کے حضور مجرم ٹھہرے اور اُس کی عدالت کے نیچے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہمیں درست اور غلط میں امتیاز کر پاتے، ہم سب گناہ گار اور خدا کے حضور سزاوار تھے۔

شریعت کے تعلق سے ایک بات یقینی ہے اور وہ یہ کہ شریعت درست کام کرنے میں ہماری قطعاً کوئی مدد نہیں کرتی بلکہ ہمیں درست کاموں کے بارے میں علم بخشتی ہے۔ کسی بھی ملک کا قانون کسی نوجوان کو یہ تو بتا سکتا ہے کہ شراب نوشی کی حالت میں گاڑی چلانا خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن یہ علم اُس کے دل میں موجود آزمائش پر غالب آنے میں اُس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ خدا کی شریعت نے ہر ایک مرد و زن کو یہ بتا دیا کہ انہیں زناہ کاری نہیں کرنی۔ لیکن آزمائش آنے کی صورت میں یہ علم گناہ پر غالب آنے کیلئے اُن کی کوئی مدد نہ کر سکا۔

خدا کی شریعت کے دیئے جانے کا مقصد خدا کے معیار کو ہم پر ظاہر کرنا تھا۔ یوں ہم اس بات کے پابند ہو گئے کہ ہم نے اُس کے مقصد کی پیروی کرنی ہے اور جو لوگ اُس کی تعمیل کرنے میں ناکام رہے انہیں سزا ملی۔ کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جو کامل طور پر خدا کے تمام تقاضے پورے کر سکتا اور وہ سب اُس کی عدالت کے زیر تاب آگئے۔ مقدس پولس رسول اس صورت حال کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

چنانچہ لکھا ہے کہ کوئی راستہ نہیں۔ ایک بھی نہیں۔ کوئی سمجھ دار نہیں۔ کوئی خدا کا طالب نہیں۔ سب گمراہ ہیں۔ سب کے سب نکلے بن گئے۔ کوئی بھلائی کرنے والا نہیں۔ ایک بھی نہیں۔ (رومیوں 3:10-12)

خدا کے تقاضے ہماری دسترس سے باہر تھے۔ جب کوئی چیز ہماری دسترس سے بہت دور ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اُس کے تین ممکنہ جوابات ہیں۔ اول۔ ہم ہٹ دھرمی سے اُس بات پر ڈٹے رہتے ہیں۔ دوم۔ ہم دستبردار ہو جاتے ہیں۔ سوم۔ یا پھر ہم اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے کوئی اور طریقہ کار ڈھونڈ لیتے ہیں۔

درج بالا تین باتوں میں سے یہودی پہلے نمبر پر تھے۔ مقدس پولس رسول رومیوں 2:10 میں بتاتے ہیں کہ یہودی

پرانی مشقیں اور نئی سے

لوگ خدا کے لئے بڑی غیرت رکھنے والے تھے۔ لیکن مسئلہ صرف یہ تھا کہ انہوں نے شریعت کی تابعداری سے خدا کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ اور انہیں اس بات کا احساس ہی نہ ہوا کہ ایسا کرنا اُنکے بس کی بات نہیں ہے۔ تصور کریں کہ ایک قاتل محض اس بنا پر عدالت سے بچنے کی کوشش کر رہا ہو کہ اُس نے کبھی اپنے ہمسایہ کی ضرورت کے وقت مدد کی تھی۔ یہ حقیقت کہ اُس نے کبھی اپنے ہمسایہ کی مدد کی تھی اُس جرم کو دور نہیں کر سکتی جس کیلئے اُس پر مقدمہ چل رہا ہے۔ لگ بھگ اسی طرح سے عہدِ عتیق کے یہودی لوگ خدا کی عدالت سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اُن کا خیال تھا کہ اگر وہ زیادہ نیک اعمال کریں گے، تو خدا اُن کی بد اعمالیوں کو بھول جائے گا۔ لیکن خدا کسی ایسے اصول یا طریقہ کار کے تحت کسی کی عدالت نہیں کرتا۔ جیسا کہ یعقوب رسول بیان کرتے ہیں۔ ”کیوں کہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی وہ سب باتوں میں قصور وار ٹھہرا۔“

تصور کریں کہ ایک بھوکا لڑکا اپنی پہنچ سے دور اُس مرتبان کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، جس میں کھانے والی مختلف قسم کی اشیاء موجود ہیں۔ اُس نے اُس مرتبان تک پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ لیکن یہ اُس کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ حتیٰ کہ ایک اونچی کرسی پر کھڑے ہو کر بھی اُس نے اُس مرتبان تک پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن لا حاصل۔ اُس کی تمام تر کاوشیں اُس مرتبان تک پہنچنے میں اُس کی کوئی مدد نہ کر سکیں۔ یہ خدا کی شریعت کی تصویر ہے۔ یہ ہمیشہ سے خدا کے لوگوں کی دسترس سے بہت دور رہی ہے۔

ہم نے تاریخِ کلیدیا میں شروع سے آخر تک دیکھ لیا ہے کہ لوگوں نے خدا کی قائم کردہ شریعت تک پہنچنے کی کاوش میں کیا کچھ کیا ہے۔ بعض لوگ تنہا نیوں، عاروں، پہاڑوں، خانقاہوں میں بہرا کئے رہے۔ بعض کسی بڑے کام کے سرزد ہو جانے پر خود کو مارتے رہے۔ بعضوں نے غربت کی زندگی گزارنے کو ترجیح دی اور بعض اپنے ایمان اور عقیدہ کی خاطر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بہت سی مثالیں ایسی ہیں جن میں جوش میں جذبہ کی کمی نہ تھی۔ کھانے والی چیزوں سے بھرے مرتبان سے دور نیچے کھڑے ہوئے لڑکے میں جوش و جذبہ کی کمی نہ تھی۔ عہدِ عتیق کے لوگوں پر قطعاً یہ الزام نہیں لگایا جاسکتا کہ اُن میں جوش و جذبہ کی کمی تھی۔ تاہم اُن کا جذبہ اور تڑپ انہیں خدا کے قریب لانے سے قاصر رہا۔ انسانی فطرت خواہ کتنی بھی مہذب کیوں نہ ہو، خدا کے مطلوبہ تقاضا اور معیار تک نہیں پہنچ سکتی۔ ہم میں سے کسی نے بھی کبھی کامل زندگی بسر نہیں کی۔

پرانی مشقیں اور نئی سے

یہودی لوگ ہٹ دھرمی سے خدا کے معیار تک پہنچنے کے لئے اپنی کاوشوں میں لگے رہے۔ لیکن انہیں مطلق کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ تاریخ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہو گزرے ہیں جو بے دل ہو گئے اور انہوں نے اس بات پر اپنا ایمان پختہ کر لیا کہ خدا کے ساتھ باہمی رشتہ ناممکن ہے۔ یہ دو متبادل ہی محض حتمی متبادل نہیں ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ ایک تیسرا متبادل بھی ہے۔

جب ایک بچہ کھانے والی چیزوں کے مرتبان تک نہیں پہنچ سکتا تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ کیا وہ کسی بڑے سے درخواست نہیں کرتا کہ وہ اُس پر یہ مہربانی اور عنایت کر دے؟ خدا کی شریعت بھی کچھ ایسا ہی کرنے کی لئے دی گئی تھی۔ خدا کی شریعت نے لوگوں کو اس بات کا علم اور احساس دیا کہ وہ اپنی نااہلیت کو سمجھیں۔ انہیں چیلنج دیا کہ وہ کسی اور کو مدد کیلئے پکاریں۔ شریعت ہماری ضرورت کو ہم پر عیاں کرنے کیلئے دی گئی تھی۔

آنے والی چیزوں کا عکس

کیوں کہ شریعت جس میں آئینہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرائی جاتی ہیں، پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتیں۔ ورنہ ان کا گزرانا موقوف نہ ہو جاتا۔ کیوں کہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا دل انہیں گناہ گار نہ ٹھہراتا۔ بلکہ وہ قربانیاں سال بہ سال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں۔ (عبرانیوں 10:1-3)

اب تک ہم نے یہ سیکھا ہے کہ کس طرح عہد عتیق میں خدا کی شریعت نے لوگوں کو درست اور غلط کے درمیان امتیاز بخشا۔ شریعت نے انہیں خدا کے حضور جواہدہ کر دیا اور ان پر ان کی ضرورت کو عیاں کر دیا۔ اس باب میں ہم دیکھیں گے کہ شریعت نے نہ صرف ان کی ضرورت کو ان پر عیاں کیا بلکہ اس ضرورت اور مسئلے کے حل کی طرف بھی ان کی رہنمائی کی۔

عبرانیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا خط اس بات کو سمجھنے میں بہت مفید اور معاون ثابت ہوتا ہے کہ کیسے شریعت نے خدا کے لوگوں کے بنیادی مسئلہ کے حل کی طرف ان کی راہنمائی کی۔ مذکورہ حوالہ میں بتاتا ہے کہ خدا کی شریعت آنے والی چیزوں کا عکس تھی۔ ایک سایہ اصل چیز نہیں ہوتا۔ تاہم ہمیں سایہ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل چیز کہیں قریب ہی ہے۔ اس سے ہمیں اس بات کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ اصل چیز کیسی ہوگی۔ یہی کام خدا کی شریعت نے سرانجام دیا۔

خدا کی شریعت میں تمام اقسام کی تصاویر شامل تھیں کہ خدا گناہ کے مسئلہ کے حل کے لئے کیا کرے گا۔ آئیں مختصر طور پر دریافت کریں کہ کس طرح عبرانیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا خط اس بات کو منکشف کرتا ہے کہ کیسے شریعت نے اپنے لوگوں کی یسوع مسیح کی شخصیت کی طرف رہنمائی کی کہ وہی گناہ اور عدالت سے بچنے کے لئے مسئلہ کا واحد حل ہے۔

موسیٰ تو اُس کے سارے گھر میں خادم کی طرح دیا نترار رہا، تاکہ آئندہ بیان ہونے والی باتوں کی گواہی دے۔ لیکن مسیح جینے کی طرح اُس کے گھر کا مختار ہے۔ اور اُس کا گھر ہم ہیں۔ بشرطیکہ اپنی دلیری اور اُمید کا فخر آخر تک مضبوطی سے قائم رکھیں۔ (عبرانیوں 3:5-6)

شریعت دینے میں موسیٰ کا کردار عبرانیوں 3:5 کے مطابق تھا ”کہ آئندہ بیان ہونے والی باتوں کی گواہی دے“ بالفاظ دیگر بطور شریعت دینے والے کے موسیٰ کی ذمہ داری لوگوں کی مستقبل میں ہونے والے کام کی طرف رہنمائی کرنا تھی۔ موسیٰ کی معرفت دی جانے والی شریعت مستقبل میں ایک بڑے کام کی منتظر تھی جو وقوع پذیر ہونے کو تھا۔

جب ہم عبرانیوں کے چوتھے باب کی طرف بڑھتے ہیں تو مصنف یہودی سبت کی شریعت کا ذکر کرتا ہے۔ سبت کی شریعت تمام یہودیوں سے تقاضا کرتی تھی کہ وہ کام کاج بند کریں اور سارا دن گھیاں دھیان عبادت اور آرام میں گزاریں۔ یہ وہ وقت ہوتا تھا جب خدا کے لوگوں کو اُس کی حضوری کے اطمینان اور خاموشی میں وقت گزارنا ہوتا تھا۔

عبرانیوں 2:4 میں خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہودی قوم نے سبت کے حقیقی معنوں کو غلط سمجھا کیوں کہ انہوں نے اپنے اعمال کو ایمان کے ساتھ کیجنا نہ کیا جس کی سبت نمائندگی کرتا تھا۔ عبرانیوں 2:4 کے مطابق سبت انجیل کا پیغام تھا۔

پس جب اُس کے آرام میں داخل ہونے کا وعدہ باقی ہے، تو ہمیں ڈرنا چاہئے۔ ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی رہا ہوا معلوم ہو۔ کیوں کہ ہمیں بھی اُن ہی کی طرح خوشخبری سنائی گئی۔ لیکن سنے ہوئے کلام نے اُن کو اس لئے کچھ فائدہ نہ دیا کہ سننے والوں کے دل میں ایمان کے ساتھ نہ بیٹھا۔

سبت کی شریعت میں نجات اور اُس آرام کے بارے میں ایک پیغام پنہاں ہے۔ جو خدا نے اپنے لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری اور صلیب پر اُس کی قربانی کے وسیلہ سے دے دیا ہے۔

عبرانیوں 4:9,6-10 میں خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اُس وقت جب سبت کو منایا جاتا تھا اُس وقت بھی خدا کے

لوگوں کیلئے ایک بڑا آرام باقی تھا۔

پس جب یہ بات باقی ہے کہ بعض اُس آرام میں داخل ہوں اور جن کو پہلے خوشخبری سنانی گئی تھی وہ نافرمانی کے سبب سے داخل نہ ہوئے۔ (عبرانیوں 4:6)

پس خدا کی اُمت کے لئے سبت کا آرام باقی ہے۔ کیوں کہ جو اُس کے آرام میں داخل ہوا۔ اُس نے بھی خدا کی طرح اپنے کاموں کو پورا کر کے آرام کیا۔ (عبرانیوں 4:9-10)

یہ وعدہ شدہ سبت کا آرام اُس سبت کی طرح نہیں تھا جسے یہودی لوگ مناتے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے سبت کے آرام کا تجربہ کیا تھا، خدا کی حضوری میں پہنچائے گئے جہاں اُنہوں نے کامل اطمینان، سکون و آرام اور عبادت کو سمجھا۔ اور یہ سبت کی شریعت آنے والی چیزوں کا عکس تھا۔ جن لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو بطور نجات دہندہ قبول کیا ہے، وہ اُس آرام کو سمجھتے ہیں جس کی پرانے عہد نامہ کا سبت بات کرتا ہے۔ یہ اُسی وقت ممکن ہے جب خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ یقینی ہوتا ہے تاکہ ہم اُس اطمینان اور سکون و آرام کا تجربہ کر سکیں جس کے بارے میں سبت نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ یہ گناہ کی غلامی اور بوجھ سے مخلصی اور آرام تھا۔ آرام کا تجربہ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہو سکتا ہے۔ سبت کی شریعت اُس دن کی طرف اشارہ تھا جب خداوند یسوع مسیح کے صلیبی کام کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں نے ایک بڑے آرام کا تجربہ کرنا تھا۔

عبرانیوں 4-8 ابواب عہد حقیق کے سردار کا ہنوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو شریعت کی انجام دہی کیلئے خادم کے طور پر کام کرتے تھے۔ اُن سردار کا ہنوں نے پوری وقاداری سے خدا کی شریعت کے تقاضے پورے کیے۔ لیکن وہ خود گناہ گار تھے اور انہیں معافی کی ضرورت تھی۔ کیوں کہ ہر سردار کا ہن آدمیوں میں سے منتخب ہو کر آدمیوں ہی کے لئے اُن باتوں کے واسطے مقرر کیا جاتا ہے جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں۔ تاکہ نذریں اور گناہوں کی قربانیاں گزرائیں۔ اور وہ نادانوں اور گمراہوں سے نرمی سے پیش آنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس لئے کہ وہ خود بھی کمزوری میں مبتلا رہتا ہے۔ اور اسی سبب سے اُس پر فرض ہے کہ گناہوں کی قربانی جس طرح اُمت کی طرف سے گزرائے اُسی طرح اپنی

پرانے عہد نامہ کے سردار کاہن وقتی طور پر خدا کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتے تھے۔ انہیں اپنے لئے بھی قربانیاں گزرائی پڑتی تھی تاکہ انہیں یاد رہے کہ حتیٰ کہ قربانیاں گزرانے والے بھی خدا کی عدالت کے نیچے ہیں۔

یہ بات واضح تھی کہ عہد عتیق کی کہانت نے گناہ اور خدا سے جدائی کے مسئلہ کا کوئی حل پیش نہ کیا۔ کوئی بھی کاہن اپنی کہانت کی انجام دہی کے وسیلہ سے خدا کے اُس معیار تک نہ پہنچ سکتا جو اُس نے اپنی شریعت میں قائم کیا تھا۔ اسی وجہ سے ایک اور طرح کی کہانت درکار تھی۔

پس اگر بنی لاوی کی کہانت سے کاملیت حاصل ہوتی، کیوں کہ اُسی کی ماتحتی میں اُمت کو شریعت ملی تھی تو پھر کیا حاجت تھی کہ دوسرا کاہن ملک صدق کے طور کا پیدا ہو اور ہارون کے طریقہ کا نہ گنا جائے۔ (عبرانیوں 7:11)

خداوند یسوع مسیح ایک نئے کاہن کے طور پر آئے تاکہ پرانے عہد نامہ کے کاہنوں کی طرح۔ وہ ہارون کی نسل سے بھی نہیں تھا، جس سے تمام کاہن پیدا ہوئے تھے۔ خداوند یسوع مسیح لاوی کے قبیلہ سے نہیں بلکہ یہوداہ کے قبیلہ سے پیدا ہوئے تھے۔

خداوند یسوع مسیح ایک نئے طرز کے کاہن بنے۔ اُس کی کہانت عہد عتیق کی کہانت سے یکسر مختلف ہے۔

عبرانیوں 7:24-27 میں خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ابد تک زندہ ہے اور اُن کو پوری پوری نجات دے سکتا ہے جو اُس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں۔

مگر چونکہ یہ ابد تک قائم رہنے والا ہے۔ اس لئے اُس کی کہانت لازوال ہے۔ اسی لیے جو اُس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں۔ وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے۔ کیوں کہ وہ اُن کی شفاعت کے لئے ہمیشہ زندہ ہے۔ چنانچہ ایسا ہی سردار کاہن ہمارے لائق بھی تھا۔ جو پاک اور بے ریا اور بے داغ ہو۔ اور گناہگاروں سے جدا اور

پرانی مہکتیں اور نئی سے

آسمانوں سے بلند کیا گیا ہو۔ اور اُن سردار کا ہنوں کی مانند اس کا محتاج نہ ہو کہ ہر روز پہلے اپنے گناہوں اور پھر اُمت کے گناہوں کے واسطے قربانیاں چڑھائے۔ کیوں کہ اُسے وہ ایک ہی بار کرگزر را۔ جس وقت اپنے آپ کو قربان کیا۔ بطور ایک کاہن خداوند یسوع مسیح نے ایک کامل زندگی اور کامل قربانی گزرائی اور وہ اُن کو پوری پوری نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے جو اُس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں۔ کہانت سے منسلک شریعت خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی تھی جو کہ ہمارا سردار کاہن ہے۔ خداوند یسوع مسیح گناہ کے مسئلہ کا حل لے کر آئے۔ یہ وہ کارِ عظیم تھا جو اس سے پہلے کوئی بھی کاہن سرانجام نہ دے سکا تھا۔

عبرانیوں 9 باب میں خدا کا کلام بیگل سے متعلق خدا کی شریعت کی بات کرتا ہے۔ چونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم اس بات کی تفصیل میں جائیں کہ کس طرح بیگل اور اُس میں موجود اشیاء خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ تاہم اس سلسلہ کی ایک کڑی کے طور پر میں ایک خاص موضوع کو زیرِ بحث لانا چاہتا ہوں۔

عبرانیوں 3:9 بیگل کے ایک مخصوص حصہ کا ذکر کرتا ہے جسے پاک ترین مقام کہتے ہیں۔ خدا، عہد کے صندوق پر بیگل کے اس حصہ پر اپنی حضور کی کوٹا ہر کرتا تھا۔ یہودی اس مقام کو انتہائی مقدس اور پاک سمجھتے تھے اور یہ پاک ترین اور مقدس تھا بھی۔ کیوں کہ سال میں ایک مرتبہ صرف سردار کاہن اپنے آپ کو پاک کرنے کے بعد اس میں داخل ہوا کرتا تھا۔ اس پاک ترین مقام کو ایک پردہ کے ذریعہ بیگل کے دوسرے حصہ سے الگ کیا گیا تھا۔

یہ پردہ جو پاک ترین مقام کو بیگل کے دوسرے حصہ سے الگ کرتا تھا، خدا کے لوگوں پر اس بات کو ظاہر کرتا تھا کہ خدا تک رسائی کا راستہ بند ہے۔ گناہ نے خدا اور انسان کے درمیان جدائی کی دیوار کھڑی کر دی تھی۔ عبرانیوں کا مصنف 8:9 میں اس بات کو واضح کرتا ہے

اس سے روح القدس کا یہ اشارہ ہے کہ جب تک پہلا خیمہ کھڑا ہے۔ پاک مکان کی راہ ظاہر نہیں ہوتی۔

جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تو یہ پردہ اُدھر سے نیچے تک پھٹ گیا۔

پرانی مقلبتیں اور نئی سے

یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں۔ (متی 27: 50-51)

خداوند یسوع مسیح نے اپنی صلیبی موت کے وسیلہ سے انسان اور خدا کے درمیان جدائی کی دیوار کو ختم کر دیا ہے۔ اور اب لوگوں کو بغیر کسی قربانی کے پاک ترین مقام تک رسائی حاصل ہو گئی ہے۔ بیبل میں یہ پردہ شریعت کے مطابق لگایا گیا تھا اور اس بات کی علامت تھا کہ خداوند یسوع مسیح بطور ہمارا سردار کا بن اس رکاوٹ کو دور کرے گا۔

خدا کی شریعت کا یہ تقاضا تھا کہ لوگوں کے گناہوں کے لئے خدا کے حضور قربانیاں گزرائی جائیں۔ لوگوں کے گناہوں کیلئے لاتعداد ذبیل اور بکرے ذبح کیے جاتے تھے۔ قربانیاں گزرانے کا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا تھا، لیکن گناہ کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوتا تھا۔ عبرانیوں 3: 10-4 میں خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ قربانیاں ممکنہ طور پر کبھی بھی گناہ کو دور نہ کر سکیں۔

”بلکہ وہ قربانیاں سال بہ سال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں۔ کیوں کہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔“

قربان کیے جانے والے جانور کی بڑی سے بڑی قیمت بھی گناہ کا فدیہ ادا نہ کر سکی۔ تاہم خداوند یسوع مسیح ہمارے گناہ کے مسئلہ کے لئے ایک کامل قربانی کے طور پر اس دنیا میں آیا۔ وہ دنیا کے گناہوں کیلئے قربان شدہ بڑے کے طور پر صلیب پر قربان ہو گیا۔ خدا نے ایک کامل بڑے کے طور پر اس کی قربانی کو پورے طور پر قبول کیا اور دنیا کے موجودہ ماضی اور مستقبل کے گناہوں کیلئے فدیہ دیا۔

”لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لئے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزراں کر خدا کی ذنی طرف جا بیٹھا۔ اور اسی وقت سے منتظر ہے کہ اُس کے دشمن اُس کے پاؤں تلے کی چوکی بنیں۔ کیوں کہ اُس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے اُن کو ہمیشہ کے لئے کامل کر دیا جو پاک کئے جاتے ہیں۔“ (عبرانیوں 10: 12-14)

خداوند یسوع مسیح کی ایک ہی قربانی نے وہ کر دیا جو پرانے عہد نامہ کی تمام قربانیاں نہ کر سکیں۔ اُس کامل قربانی نے

پرانی مشکلیں اور نئی سے

ایک ہی دفعہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے گناہ کا مسئلہ حل کر دیا۔ وہ سب جو اُس کے پاس آتے اور اُس کی قربانی کو قبول کرتے ہیں مکمل معافی اور خدا کی عدالت سے رہائی حاصل کرتے ہیں جو کہ عہدِ عتیق کی قربانیاں کبھی نہ سکیں۔

شریعت کا مقصد خداوند یسوع کو متعارف کروانا تھا۔ شریعت خدا کی خوشخبری کو پیش کر رہی تھی۔ شریعت کے وسیلہ سے خدا نے اپنے لوگوں پر اُن کی ضرورت کو ظاہر کیا اور اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات کی خوشخبری کو پیش کیا۔ خدا کا بیٹا اپنے لوگوں کی جانوں کو سب کا وہ آرام دے گا جس کے وہ طالب رہے ہیں۔ خدا کا بیٹا اُن کیلئے ایک کامل سردار کا بن گیا ہے جس کی کامل قربانی اُن کے گناہوں پر اُنہیں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے فتح بخشتی ہے۔ اُس کے بیٹے نے جدائی کی اُس دیوار کو گرا دیا ہے جو انہیں خدا سے جدا کیے ہوئے تھی۔ اُس کے بیٹے خداوند یسوع نے گناہوں کی کامل قربانی بن کر گناہوں کیلئے دی جانے والی جانوروں کی قربانیوں کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا ہے۔

پرانے عہد نامہ میں خدا کی شریعت خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ اُن قربانیوں اور رسومات میں صرف ایک ہی حقیقی اور قابل قدر چیز تھی اور وہ یہ کہ ساری چیزیں خداوند یسوع مسیح کی آمد کی تصویر پیش کرتی تھیں۔ اگر یہ قربانیاں اُس کے کامل بیٹے کی قربانی کی تصویر اور جھلک پیش نہ کرتیں تو خدا کبھی بھی اُن قربانیوں کو قبول نہ کرتا۔ شریعت کو مسیح کی خدمت اور زندگی میں اُس کا حقیقی مفہوم اور مقصد حاصل ہو گیا۔ یہ سب کچھ آنے والی عظیم چیزوں کا عکس تھا۔

خداوند یسوع مسیح شریعت کی تکمیل

خداوند یسوع مسیح نے کیسے عہدِ عتیق کی شریعت کو پورا کیا؟ شریعت کو کیوں کر پورا کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ اس حصہ میں ہم مختصر طور پر اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کیسے خداوند یسوع مسیح نے اُس کام کو سرانجام دیا جو شریعت کبھی سرانجام نہ دے سکی۔

خدا کے حضور راستباز ٹھہرنا

پس اے بھائیو! تمہیں معلوم ہو کہ اسی کے وسیلہ سے تم کو گناہوں کی معافی کی خبر دی جاتی ہے۔ اور موسیٰ کی شریعت کے باعث جن باتوں سے تم بری نہیں ہو سکتے تھے، اُن سب سے ہر ایک ایمان لانے والا اس کے باعث بری ہوتا ہے۔ (اعمال 13: 38-39)

موسیٰ کی معرفت دی گئی شریعت نے ہم پر وہ سب کچھ ظاہر کیا جس کی خدا ہم سے توقع کرتا تھا۔ لیکن اُس شریعت نے خدا کے معیار کے مطابق زندگی گزارنے میں ہماری کوئی مدد نہ کی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہمارے سامنے ایسا معیار رکھ دے جس پر کوئی بھی پورا نہ اتر سکتا ہو اور پھر یہ ایسے ہر جانے کا تقاضا کرے جو کوئی بھی ادا نہ کر سکتا ہو۔ ہمارے ملکی قوانین سے قطعی مختلف، خدا کا ملیت کا تقاضا کرتا تھا۔ تخلیق آدم سے آج تک ماسوائے خداوند یسوع مسیح کے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوا جو اُس معیار پر پورا اتر سکا ہو۔ اعمال 13 باب کے مطابق ”شریعت کے وسیلہ سے خدا کے حضور راستباز ٹھہرنا ممکن نہیں۔“ مقدس پولس رسول نے رومیوں 20:3 میں اس خیال کو یوں بیان کیا ہے۔

کیوں کہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اُس کے حضور راستباز نہیں ٹھہرے گا۔ اس لئے کہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے۔

یہ بات اس سے زیادہ کہیں بھی اور کسی بھی طریقہ سے واضح نہیں ہو سکتی۔ ”کیوں کہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اُس کے حضور راستباز نہیں ٹھہرے گا۔“ شریعت کا مقصد ہمیں خدا کے حضور راستباز ٹھہرانا نہیں تھا۔ مقدس پولس رسول مذکورہ حوالہ میں اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ شریعت کا مقصد ہمیں گناہ کی پہچان کروانا اور ہم پر ہماری ضرورت کو آشکارہ کرنا تھا۔ شریعت کے وسیلہ سے ہم اپنی اس بے استعدادی اور نا اہلیت سے آگاہ ہوئے ہیں کہ ہم اپنی کاوشوں

پرانی مٹھکیں اور نئی سے

سے خدا کے حضور راستہ زائیں بٹھر سکتے۔ عہدِ شتیق کے دور میں مدح پر قربان کیے جانے والے تمام تیل اور بکرے خدا کے حضور ہماری حالت اور مقام کو تبدیل کرنے سے قاصر رہے۔

پر میاہ نبی ہمیں 23:13 میں بتاتے ہیں۔

حشی اپنے چمڑے کو یا چیتا اپنے داغوں کو بدل سکے تو تم بھی جو بدی کے عادی ہوئی کی کر سکوں گے۔

اگرچہ ہم اپنے آپ کو اچھے کاموں اور تابعداری کے لہاؤے میں چھپالیں تو بھی اس سے ہماری اندرونی فطرت تبدیل نہیں ہوتی۔ آپ ایک سوار کو صاف کریں، اس کو نہلائیں اور اس کی گردن پر ایک خوبصورت فیتہ باندھ دیں، تو بھی یہ سوار کی فطرت کے ساتھ سوار ہی رہے گا۔ اور موقع ملتے ہی قریب ترین جو ہڑ میں خوبصورت فیتے سمیت کچھڑ میں جا کر لوٹنے لگے گا۔ آپ اس کی فطرت کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ خوبصورت فیتہ اور صاف پانی اس کی فطرت میں قطعاً کوئی تبدیلی نہیں لاسکتے۔

عہدِ شتیق میں یکے بعد دیگرے قربانیاں گزرائی جاتیں، پھر بھی لوگ گناہ کرتے اور خدا کی عدالت کے نیچے رہتے۔ روز بروز جاری رہنے والی قربانیاں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ قربانیاں کسی طور پر بھی خدا کے لوگوں کو اس کے قریب نہ لاسکیں۔ شریعت کی عدولی کرنے والوں کو سزا دی جاتی۔ لیکن اس سے شریعت کی عدولی کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوا۔ شریعت پابندیوں، ممانعتوں، رسومات اور قربانیوں سے گناہ کی فطرت کو تبدیل نہ کر سکی۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا کے لوگوں کو خدا کے منظور نظر نہ بنا سکیں۔ کیوں کہ شریعت گناہ کے مسئلہ کو حل کرنے سے قاصر تھی جو خدا اور لوگوں کے درمیان جدائی کی دیوار بنا ہوا تھا۔

یقیناً بعض لوگ دوسروں سے اچھی زندگی بسر کرتے تھے، بعض لوگ خدا کے انتہائی قریب ہوتے تھے، لیکن کوئی بھی اس بات کا دعویٰ نہ کر سکا کہ وہ بے گناہ ہے۔ اس نکتہ پر شاید کوئی یہ کہے۔ ”کیا واقعی اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ ہم کامل نہیں ہیں۔ ہم جیسے بھی ہیں خدا کو ہمیں قبول کر لینا چاہئے۔“ ایسی صورت حال کے ساتھ کئی اور مسائل بھی منسلک

ہیں۔

اول: وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے بھی ہیں خدا کو اس بات کو خاطر میں لائے بغیر کہ ہم گناہ گار ہیں ہمیں قبول کر لینا چاہئے۔ ایسے لوگ گناہ کی فطرت کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ یہ گناہ ہی ہے جو ہمیں خدا سے جدا کرتا ہے۔ انسانی فطرت کو گلنے والی یہ بیماری انتہائی مہلک ہے۔ اس زمین پر موجود ہر طرح کے مسائل اور مشکلات کا یہی ایک بنیادی منبع ہے۔ کیا آپ ایک مہلک وائرس کیلئے موقع پیدا کریں گے کہ وہ آپ کی زندگی کے لئے ایک جان لیوا خطرہ بن جائے یا آپ اپنے بچے کو ایک زہریلے سانپ کے ساتھ کھیلنے دیں گے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ گناہ مکمل اور قطعی طور سے ہماری فطرت سے الگ کیا جائے۔ اس معاملہ میں ہم کسی طور پر بھی سمجھوتہ کرنے کے بارے میں سوچ نہیں سکتے۔

دوم: یہ بیان کسی طور پر بھی خدا کی پاکیزگی سے منسلک نہیں ہوتا۔ خدا کی پاکیزگی اس قدر بے انتہا ہے کہ یہ کسی بھی صورت اور کسی بھی حالت میں گناہ کو برداشت نہیں کر سکتی اور ہمیشہ گناہ سے نفرت کرتی ہے۔ اکثر و بیشتر ہم گناہ کے مضر اور تباہ کن اثرات کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں۔ ٹیلی ویژن اور میڈیا نے ہمیں گناہ آلودہ رویوں کی ایسی ایسی خوبصورت شکلیں دکھائی ہیں اور ان کی ایسی تصویر کشی کی ہے کہ یہ گناہ آلودہ رویے قابل قبول بن چکے ہیں۔ گناہ آلودہ رویے کسی طور پر بھی ہمارے لئے پریشانی کا باعث نہیں بنتے اور نہ ہی ہمیں ان سے کوئی ذہنی دھچکا لگتا ہے۔ گناہ کے تعلق سے خدا کا نکتہ نظر کبھی تبدیل نہیں ہوا۔ رویہ ہی ہر اُس چیز کا متضاد ہے جسے خدا پیش کرتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے روشنی تاریکی میں نہیں رہ سکتی۔ بالکل اسی طرح خدا بھی گناہ کی موجودگی میں نہیں رہ سکتا۔ اگر ہمیں قدوس خدا کی حضوری میں رہنا ہے تو پھر ضرور ہے کہ ہماری فطرت سے گناہ کا خاتمہ کیا جائے۔

سوم: وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے بھی ہیں خدا کو ہمیں قبول کر لینا چاہئے۔ وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ انصاف جو ابدی طلب کرتا ہے۔ جب ہم جرم کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو پھر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ خدا کبھی بھی گناہ کو نظر انداز نہیں کرے گا۔ انصاف اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر ہمیں خدا کے حضور رستہ باز ٹھہرنا ہے تو پھر گناہ کی سزا دی جائے۔

آخری بات یہ کہ، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ”خدا کو چاہیے کہ وہ گناہ کو نظر انداز کر دے اور ہم جیسے بھی ہیں ہمیں قبول کر

پرانی مقلکیں اور نئی سے

لے۔“ ایسے لوگ خدا کی طرف سے پیش کیے گئے گناہ کے مسئلہ کے حل کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ رومیوں نے 21:3 میں خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کے پاس ایک ایسا منصوبہ ہے جو انصاف کے تقاضے پورے کرتا اور ہمیں اُس کے حضور راستہ راہنمائی کرتا ہے۔

مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راستہ راہنمائی ظاہر ہوئی ہے جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے۔ یعنی خدا کی وہ راستہ راہنمائی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ کچھ فرق نہیں۔ اس لئے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ مگر اُس کے فضل کے سبب سے اُس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راستہ راہنمائی ظاہر ہوتی ہے۔ اُسے خدا نے اُس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ظہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو۔ تاکہ جو گناہ جو پستتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے قتل کر کے طرح دی تھی اُن کے بارے میں وہ اپنی راستہ راہنمائی ظاہر کرے۔

بائبل مقدس میں سے درج بالا آیات انتہائی اہم اور بڑی قدرت ہیں۔ اس حوالہ میں مقدس پولس رسول ہمیں تین اہم باتیں بتاتے ہیں۔ اول۔ خدا نے کچھ وقت کیلئے ہمارے ماضی کے گناہوں سے تخلص کر کے ہمیں بغیر سزا کے چھوڑ دیا۔ دوم۔ خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا تاکہ وہ ہمیشہ کیلئے ہمارے گناہوں کی کامل قربانی بن جائے۔ سوم۔ اب وہ اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی کامل قربانی کے وسیلہ سے اُن سب کو جو اس قربانی کو قبول کرتے ہیں شریعت کے بغیر راستہ راہنمائی عطا کرتا ہے۔

اب ہمارے لئے ممکن ہو چکا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے صلیبی کام اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلہ سے خدا کے حضور راستہ راہنمائی ظاہر کرسکیں۔ یہ راستہ راہنمائی قطعی طور پر خدا کی شریعت اور اُس کے تقاضوں سے الگ تھلگ ہے۔ خدا کے ذہن میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے اور گناہ کی سزا دینے کیلئے خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر قربانی کامل اور کافی تھی۔

خداوند یسوع مسیح کا صلیب پر کیا ہوا کام، میرے ماضی حال اور مستقبل کے تمام گناہوں کا احاطہ کرتا ہے۔ ہر وہ گناہ جو

پرانی مقلبتیں اور نئی سے

میں نے کبھی کیا یا کبھی کروں گا اُس ایک ہی دفعہ کی قربانی نے اُسے ڈھانپ لیا ہے جو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر میرے لئے دی تھی۔ اب وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کے کیے گئے کام پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے راستا زلوگوں کی طرح خدا کے حضور کھڑے ہو سکتے ہیں جن کے گناہوں کا مکمل فدیہ دے دیا گیا ہے اور جن کے گناہ مکمل طور پر معاف ہو چکے ہیں۔ کوئی بھی برائی اور گناہ جو میں نے کبھی کیا تھا یا کبھی مجھے سے سرزد ہوگا، میرے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ یہ سب گناہ خداوند یسوع کی صلیبی موت کے وسیلہ سے پہلے ہی ڈھانپ دیئے گئے ہیں۔

شریعت میں یہ قدرت نہ تھی کہ وہ ہمیں خدا کے حضور راستا بظہر اسکے۔ اس لئے نہیں کہ یہ غیر کامل تھی۔ بلکہ اس لیے کہ ہم کامل نہیں تھے۔ اپنے معیار کو کم کرنے اور گناہ سے سمجھوتہ کرنے کی بجائے خدا نے اپنے بیٹے کو قربان کر کے وہ قیمت ادا کی جو ہم ادا نہیں کر سکتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں باپ کے سامنے راستا بظہر انے کیلئے اس دنیا میں آئے۔ اب ہم باپ کے سامنے اس طور سے پاک اور راست کھڑے ہو سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ وہ رکاوٹ جو شریعت کے وسیلہ سے ہم پر عیاں ہوئی، اب خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کے وسیلہ سے دور ہو چکی ہے۔ اور اب ہم خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کے وسیلہ سے گناہوں کی مکمل معافی کے ساتھ آسمانی باپ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں۔

خداوند یسوع مسیح نے اپنی قربانی والی موت سے قانونی طور پر شریعت کے تقاضے پورے کر دیئے ہیں۔ اُس نے میرے تمام گناہوں کی سزا برداشت کی۔ اور خدا کے تمام راست تقاضے پورے کر دیئے ہیں، تاکہ آسمانی باپ کے ساتھ میرا درست اور حقیقی رشتہ بحال ہو سکے۔ اُس کی قربانی نے نہ صرف میرے ماضی کے گناہ بلکہ مستقبل کے گناہ بھی ڈھانپ لئے۔ تاکہ کبھی بھی کوئی گناہ مجھے اُس کے حضور مجرم نہ بظہر اسکے۔ خداوند یسوع مسیح نے تمام تقاضے پورے کر کے آسمانی باپ کے ساتھ میرے درست رشتہ کو یقینی بنا دیا ہے۔

ایک نئی کہانت

پس اگر بنی لاوی کی کہانت سے کاملیت حاصل ہوتی کیوں کہ اسی کی ماتحتی میں امت کو شریعت ملی تھی۔ تو پھر کیا حاجت تھی کہ دوسرا کاہن ملکِ صدق کی طرح کا پیدا ہو۔ اور ہارون کے طریقہ کا نہ گنا جائے۔ اور جب کہانت بدل گئی تو شریعت کا بھی بدلنا ضرور ہے۔ کیوں کہ جس کی بابت یہ باتیں کہی جاتی ہیں۔ وہ دوسرے قبیلہ میں شامل ہے۔ جس میں سے کسی نے قربان گاہ کی خدمت نہیں کی۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ ہمارا خداوند یہوداہ میں سے پیدا ہوا اور اس فرقہ کے حق میں موسیٰ نے کہانت کا کچھ ذکر نہیں کیا اور جب ملکِ صدق کی مانند ایک اور ایسا کاہن پیدا ہونے والا تھا، جو جسمانی احکام کی شریعت کے موافق نہیں بلکہ غیر فانی زندگی کی قوت کے مطابق مقرر ہو تو ہمارا دعویٰ اور بھی صاف ظاہر ہو گیا۔ (عبرانیوں 7: 11-16)

موسیٰ کی شریعت کے مطابق تمام تر قربانیاں گزرا نے اور ضابطوں کو سرانجام دینے والے خود بھی اُس پر عمل کرنے سے قاصر تھے۔ ہر دفعہ جب کاہن خدا کے حضور خدمت کرنے کے لئے آتے تو سب سے پہلے انہیں اپنے گناہوں کیلئے قربانیاں گزرا نئی پڑتی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حتیٰ کہ کاہنوں کو بھی گناہ پر غلبہ حاصل نہیں تھا۔ اگر وہ از خود ابھی تک گناہ کی سزا کے نیچے تھے، تو ممکن نہیں تھا کہ وہ گناہ کی سزا کے مسئلہ کا حل پیش کر سکتے۔ پرانے عہد نامہ کے کاہن گناہ کے مسئلہ کا حل پیش کرنے میں بے بس، کمزور اور ناتواں تھے۔

خداوند یسوع مسیح ہمارا نیا سردار کاہن بن کر آیا۔ عبرانیوں 7 باب ہمیں بتاتا ہے کہ وہ پرانے عہد نامہ کے دیگر کاہنوں کی طرح لاوی کی نسل سے کاہن نہ بنا۔ بلکہ خداوند یسوع مسیح یہوداہ کے قبیلہ سے تھا۔ موسیٰ کی شریعت کے مطابق کوئی بھی شخص جو لاوی کی نسل سے نہیں ہوتا تھا وہ کہانت کے فرائض سرانجام نہیں دے سکتا تھا۔ (گلتی 3: 10) خداوند

پرانی مقلبتیں اور نئی سے

یسوع مسیح کی کہانت پرانے عہد نامہ کی کہانت سے منفرد تھی۔ وہ بالکل ایک نئی کہانت کو سرانجام دینے کیلئے آیا، جو لاوی کے قبیلہ کی کہانت سرانجام نہ دے سکی۔

خداوند یسوع مسیح کی نئی کہانت کے تحت، ایک اہم ڈھانچے کی تشکیل نو ہوئی۔ عبرانیوں 7:12 کے مطابق کہانت کی تبدیلی کے ساتھ شریعت میں بھی تبدیلی آئی۔

خداوند یسوع مسیح کے کام کے ساتھ، کاہن کی خدمت بھی تبدیل ہوگئی۔ اب ہمیں گناہ کیلئے کسی قسم کی قربانی نہیں گزارانا ہوگی۔ کیوں کہ خداوند یسوع کی ایک ہی دفعہ کی قربانی تمام وقتوں اور زمانوں کیلئے کافی ہے۔ اب ہمیں کسی شریعت اور اس کے ضابطوں کی ضرورت نہیں۔ کیوں کہ مسیح آچکا ہے۔ اب لاوی کے قبیلہ کی کہانت کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ایک وفادار خدمت گزار کی طرح بہت برس کام کرنے کے بعد اب لاوی کی کہانت کو اپنی ذمہ داری سے برخاست ہونا تھا، تا کہ مسیح کی کہانت کے لئے جگہ بن سکے۔ پرانی کہانت اب بے مقصد ہو چکی تھی۔ یہ بڑی عزت اور تعظیم کے ساتھ برخاست کی گئی۔ اس نے وہ اپنا مقصد پورا کیا جو خدا اس کے وسیلہ سے پورا کرنا چاہتا تھا۔

پرانی کہانت نے ہماری نئی کہانت کی ضرورت کو ظاہر کیا۔ ہارون کاہن یا اس کے بیٹوں کی طرح نہیں بلکہ قطعی مختلف اور بہتر خوبیوں کے ساتھ۔ عبرانیوں 7 باب میں خدا کا کام ہمیں خداوند یسوع مسیح کی نئی کہانت کے بارے میں بہت سی باتیں بتاتا ہے۔

اول۔ 21-22 آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی کہانت ابدی ہے۔ پرانی کہانت سے قطعی مختلف جو کہ ایک بڑی چیز کی منتظر تھی۔ اس کہانت کو کبھی تبدیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے بڑی اور کوئی کہانت نہیں ہوگی۔ اب کسی اور سردار کاہن کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ کیوں کہ خداوند یسوع مسیح کے صلیبی کام نے ہمیشہ کیلئے آسمانی باپ کے تقاضوں کو پورا کر دیا ہے۔

دوم۔ مسیح ابدی سردار کاہن کے طور پر ان سب لوگوں کو پوری پوری نجات دے سکتا ہے، جو اُسکے وسیلہ سے خدا کے

پرانی مقلکین اور نئی سے

پاس آتے ہیں۔ (عبرانیوں 7:25) یہ پرانے عہد نامہ کی کہانت کے تحت ممکن نہ تھا۔ موسیٰ کی شریعت کے تحت کوئی کاہن بھی کسی کو پورے طور پر نجات نہیں دے سکتا تھا۔ پرانی کہانت کی قدر و قیمت اس حقیقت میں تھی کہ وہ ایسے سردار کاہن کی منتظر تھی جو پوری پوری نجات دے سکے۔ خداوند یسوع مسیح نے سردار کاہن بن کر خدا اور انسان کے درمیان جدائی کی دیوار کو گرانے کی عظیم خواہش اور حسرت کو پورا کر دیا۔ اب وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا باپ کے پاس آتے ہیں، گناہوں کی پوری پوری معافی اور شخصی بحالی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ نجات اس قدر کامل ہے کہ کوئی اور کام ہمیں خدا باپ کی نظر میں مقبول اور راستباز نظر ہانے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا۔ ہمارے تمام گناہ ڈھانپ دیئے گئے ہیں۔ اور آسمانی باپ کے ساتھ ہمارا رشتہ ہمیشہ کے لئے مضبوط اور یقینی ہو چکا ہے۔

سوم۔ بطور ہمارا سردار کاہن، خداوند یسوع مسیح ہماری ضروریات پوری کرتا ہے۔ کیوں کہ وہ بے گناہ اور پاک تھا۔
(دیکھیں آیت 26)

اُسے کبھی بھی اپنے لئے قربانی نہ گزارنا پڑی۔ نہ صرف وہ خود بلکہ اُس کا صلیبی کام بھی کامل تھا۔ پرانے عہد نامہ کی تمام قربانیاں غیر کامل تھیں۔ انہیں ایسے کاہن گزارتے تھے جو خود بھی گناہ آلودہ فطرت رکھتے تھے۔ لیکن یسوع کی ذات میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ وہ گناہ پر غالب آیا۔ وہ گناہ کے تمام آلودہ کرنے والے اثرات سے بھی آزاد تھا۔ جب اُس نے اپنی جان قربان کی، تو اُس نے بے گناہ لاشخا اور کامل زندگی کو قربان کیا۔ ایسی ہی قربانی کی ضرورت تھی۔ جو کچھ بیلوں اور بکروں کا خون نہ کر سکا، وہ یسوع نے کر دکھایا۔ اُس نے ہماری تمام ضروریات اور تقاضوں کو کامل طور سے پورا کر دیا ہے۔

اور آخری بات، عبرانیوں 7:27 میں خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند یسوع نے بطور ہمارا سردار کاہن ہمارے گناہوں کی ہمیشہ کیلئے ایک قربانی دے دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب گناہوں کی مزید کسی قربانی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ماضی، حال اور مستقبل کے تمام گناہ خدا کے کامل برہ کی ایک ہی دفعہ کی دی ہوئی ہمیشہ کیلئے کافی ایک ہی بار گزارنے جانے والی قربانی میں ڈھانپ دیئے گئے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے انسان اور خدا کے درمیان فاصلہ ختم کر دیا ہے۔ اُس نے گناہ کی سزا کی حامل رکاوٹ کو دور کر دیا ہے۔ جو کہ ہمیں خدا سے دور کیے ہوئے تھی۔ وہ ہی اس

پرانی مہکتیں اور نئی سے

قابل تھا کہ ہارون کا بہن اور لاوی کے قبیلہ کے دیگر کاہنوں کی جگہ لے کر ہمارے لئے خدا کے حضور مؤثر خدمت سر انجام دے سکے۔

لاوی کی کہانت کے تحت پرانے عہد نامہ کی شریعت پر بڑی وفاداری سے عمل کیا جاتا تھا۔ جب وہ اپنی خدمات سر انجام دیتے تھے، تو انہیں اس بات کا علم تھا کہ وہ شریعت کی تعمیل کرتے ہوئے کبھی بھی مکمل نجات اور چھٹکارے کیلئے کوئی قربانی نہیں گزران سکتے۔ جو کچھ انہوں نے کیا، اُسکی قدر و قیمت اس بات میں پنہاں تھی کہ وہ سب کچھ کس چیز کی نمائندگی کرتا یا کس آنے والی چیز کا عکس یا تصویر پیش کرتا تھا۔ یعنی انجام کار رونما ہونے والے سردار کاہن کی آمد جو مکمل طور پر شریعت کے تمام تقاضے پورے کرنے کے لئے آنے والا تھا۔ اُس نے ہمارا سردار کاہن بن کر ایک کامل قربانی گزرائی اور اپنے لوگوں کو پوری پوری نجات دینا تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمارا سردار کاہن بن کر شریعت کو پورا کیا اور گناہ گارا انسان اور قدوس خدا کے درمیان فاصلہ کو ختم کرتے ہوئے جدائی کی دیوار کو گرا دیا یعنی ایسا عظیم کام اور کار نمایاں جو عہد عتیق کے کاہن کبھی نہ کر سکے۔

نیا دل

کیوں کہ اگر پہلا عہد بے نقص ہوتا تو دوسرے کے لیے موقع نہ ڈھونڈا جاتا۔ پس وہ اُن کے نقص بتا کر کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہوداہ کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا۔ یہ اُس عہد کی مانند نہ ہوگا جو میں نے اُن کے باپ دادا سے اُس دن باندھا تھا جب ملک مصر سے نکال لانے کے لیے اُن کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس واسطے کہ وہ میرے عہد پر قائم نہ رہے۔ اور خداوند فرماتا ہے کہ میں نے اُن کی طرف کچھ توجہ نہ کی۔ پھر خداوند فرماتا ہے کہ جو عہد اسرائیل کے گھرانے سے اُن دنوں کے بعد باندھوں گا۔ وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون اُن کے ذہن میں ڈالوں گا اور اُن کے دلوں پر لکھوں گا اور میں اُن کا خدا ہوں گا اور وہ میری اُمت ہو گئے۔ اور ہر شخص اپنے ہم وطن اور اپنے بھائی کو یہ تعلیم نہ دے گا کہ تو خدا کو پہچان۔ کیوں کہ چھوٹے سے بڑے تک سب مجھے جان لیں گے۔ اس لیے کہ میں اُن کی ناراستیوں پر رحم کروں گا اور اُن کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔

(عبرانیوں 7:8-12)

جب عہد عتیق بڑی وفاداری سے اپنے تمام اصول و ضوابط اور قوانین کے تحت اپنا مقصد پورا کر چکا تھا تو پھر ہمیں اس سے بڑھ کر کسی اور چیز کی ضرورت تھی۔ پرانے عہد نامہ کبھی بھی ہمارے مسئلہ کی جڑ یعنی گناہ آلودہ فطرت والے دل تک نہ پہنچا۔ گناہ کے لیے قربانیاں تو دی جاتی تھیں لیکن گناہ کا سلسلہ جاری تھا۔ انسانی دل جیسا شروع سے تھا ویسا ہی رہا۔ یعنی اپنی فطرت کے لحاظ سے گناہ آلودہ اور خدا کی مرضی پورا کرنے کے تعلق سے سنگین اور ہٹ دھرم۔

کئی لحاظ سے شریعت کی تعمیل ایک ڈوبتے ہوئے بحری جہاز کو پہچاننے کی کوشش کے مترادف تھی۔ کاہن پرانے عہد نامہ کے وسیلے سے انسان کو خدا کے غضب سے رہائی دینے کیلئے فدیہ دیتے رہے۔ خدا کے غضب کو ختم کرنے کے لیے بار بار قربانیاں گزرائی جاتی تھیں۔ لیکن ہماری زندگی کے جہاز کے پہلو میں جو سورخ ہو چکا تھا اُس کے لیے کچھ

پرانی مٹکیں اور نئی سے

نہ ہو۔ گا۔ گناہ اور بدکاروں ہماری زندگی میں جہاز کے پہلو میں سوراخ کے مترادف تھے۔ خدا کا غضب سمنڈ کی لہروں کی مانند جہاز سے ٹکراتا رہا۔ کاہن انسان کی مخلصی اور معافی کیلئے قربانیاں گزارتے رہے۔ لیکن وہ جہاز کے پہلو میں موجود سوراخ یعنی گناہ آلودہ دل کے مسئلہ کے حل کے لیے بالکل بے بس تھے۔ جب تک دل ویسے کا ویسا رہا، یہ خدا کی عدالت کے نیچے اور ہماری زندگی کا جہاز ڈوبنے کے خطرے میں رہا۔ شریعت اپنی بہترین حالت میں بھی ایک عارضی پیمانہ تھی۔ ہماری زندگی کے جہاز میں موجود سوراخ کو مرمت کی ضرورت تھی۔

یرمیاہ نبی نے انسانی دل کے بارے میں یہ کہا۔

دل سب چیزوں سے زیادہ حیلہ باز اور لا علاج ہے اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ (یرمیاہ 17: 9)

جب خدا نے نوح کے دور میں انسانی فطرت کو دیکھا تو اُسے کیا نظر آیا؟ پیدائش 5: 6 میں انسانی دل کی حالت کا بیان دیکھیں۔

اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی ہے اور اُس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔

انسانی دل کے تعلق سے خدا کے اظہار پر غور کریں۔ یرمیاہ 17: 9 کے مطابق یہ سب چیزوں سے زیادہ حیلہ باز اور لا علاج ہے۔ اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ خدا نے پیدائش 5: 6 میں کہا انسان کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ بہت مذمت آمیز اور معنی خیز ہیں۔ انسانی دل ہمیشہ ہی سے برا اور لا علاج ہے۔ ایسے دل کے ساتھ کوئی بھی خدا کے حضور قابل قبول نہیں ہو سکتا تھا۔ خواہ انسان موسیٰ کی معرفت دی جانے والی شریعت کا کتنا ہی وفادار اور پابند کیوں نہ ہو۔ اگر ہمارا دل تبدیل نہ ہوتا تو ہم ہمیشہ ہی خدا سے جدا اور دور بلکہ بہت دور رہتے۔

ہم پہلے ہی اس بات کا جائزہ لے چکے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت نے ہمارے ماضی، حال اور مستقبل کے گناہوں کو ڈھانپ دیا ہے۔ ہمارے گناہوں کی سزا بھی ڈھانپ دی گئی۔ اور اب ہم خدا کے حضور ایسے پاک اور

پرانی مقلبتیں اور نئی سے

راستبا زٹھبر سچے ہیں کہ کوئی ایک گناہ بھی ہمارے خلاف ہمیں مجرم ٹھہرانے کیلئے موجود نہیں ہے۔ اگر ہمیں خدا کے حضور راستبا زٹھبر نا تھا تو پھر یہ شرعی تقاضا پورا کیا جانا لازم تھا۔

تاہم بطور سردار کا ہن خداوند یسوع مسیح کا کام وہیں کا وہیں رک نہیں گیا۔ اُسکی آمد کا مقصد محض ہمارے گناہ معاف کرنا نہیں بلکہ ہمیں خدا کے نزدیک راستبا زٹھبر انا تھا۔ وہ ہمیں خدا کے ساتھ ایک نئے رشتہ میں زندگی گزارنے کے لیے ایک نیا طرز زندگی دینے کے لیے آیا۔

خداوند یسوع مسیح ایمان لانے والوں کو نیا دل دینے کے لیے آیا۔ یہ میاہ نبی اور حزقی ایل نبی دونوں نے اُس دور کے بارے میں پیش گوئی کی جب خدا کے لوگوں نے نیا دل حاصل کرنا تھا۔ جو کچھ خدا کے یہ بندے کہہ رہے ہیں آئیں اُس پر غور کریں۔

”بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں اُن دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا۔ خداوند فرماتا ہے میں اپنی شریعت اُن کے باطن میں رکھوں گا اور اُن کے دل پر لکھوں گا اور میں اُن کا خدا ہونگا اور وہ میرے لوگ ہونگے۔ اور پھر وہ اپنے اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خداوند کو پہچانو۔ کیوں کہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے۔ خداوند فرماتا ہے۔ اس لیے کہ میں اُن کی برکرداری کو بخش دوں گا اور اُن کے گناہ کو یاد نہ کروں گا۔ (یرمیاہ 31:33-34)

اور میں اُن کو نیا دل دوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا۔ اور تمہیں دل اُن کے جسم سے خارج کر دوں گا اور اُن کو گشتین دل عنایت کروں گا۔ تاکہ وہ میرے آئین پر چلیں اور میرے احکام پر عمل کریں اور اُن پر کار بند ہوں اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں اُن کا خدا ہوں گا۔ (حزقی ایل 11:19-20)

غور کریں کہ یہ انبیاء اُس نئے دل کے تعلق سے کچھ باتیں بتا رہے ہیں جو خدا اپنے لوگوں کو دے گا۔ اُس نئے دل پر خدا کے قوانین اور آئین و احکام لکھے ہونگے۔ بالفاظ دیگر اُس کی رغبت خدا کی راہوں کی پیروی کرنا ہوگی۔ یہ نیا دل فاداری میں اپنی مثال آپ ہوگا۔ یہ خدا اور اُسکی راہوں کا طالب ہوگا۔ تاکہ پرانے دل کی طرح گناہ کی طرف راغب نہ ہو گشتین دل خدا اور اُسکی آواز کے لیے نہایت نرم اور حساس ہوگا۔ اُس کی خوشی خدا کی پیروی کرنا ہوگی اور اُسکی مرضی

ہی اس نئے دل کی خوشی اور خرمی ہوگی۔

جنہوں نے نیا دل پایا وہ بالکل منفرد لوگ بن گئے۔

اس لیے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ پرانی چیزیں جاتی رہیں۔ دیکھو وہ سب نئی ہو گئیں۔

(2- کرنتھیوں 5:17)

کیوں کہ نہ ختمندہ کچھ چیز ہے اور نہ نامنظوظی بلکہ نئے سرے سے مخلوق ہونا۔ (گلتیوں 16:5)

خداوند یسوع مسیح ہمیں تبدیل کرنے آئے۔ وہ ہمیں اُن کا بنوں کی طرح عارضی رہائی دینے کیلئے نہیں آئے جو موسیٰ کی شریعت کے تحت خدمت کرتے تھے۔ وہ ہمارے بنیادی اور اصلی مسئلہ یعنی گناہ آلودہ دل کا علاج کرنے آئے۔ اُس نے نیا دل دے کر اس مسئلہ کو ہمیشہ کیلئے حل کر دیا۔ ایک ایسا دل جو خدا اور اُس کی راہوں کا طالب ہو۔

وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، انہیں نیا دل کا رو یہ مل جاتا ہے۔ ماضی کی پرانی خواہشیں اور رغبتیں رفتہ رفتہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اُن کی زندگی میں بادشاہوں کے بادشاہ کی خدمت کرنے کی نئی خواہش اور دلچسپی ابھرنے لگتی ہے۔ اب یہ لوگ سزا کے خوف سے فرض پورا کرنے کی خاطر لا چاری سے خدمت اور فرماں برداری نہیں کرتے بلکہ دلی خوشی سے کام پر عمل کرتے ہیں۔ اپنے خدا کی خدمت اور تابعداری کرنا اُن کے دل کی خوشی ہوتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح شریعت کی گہری ترین آرزو کو پورا کرنے کے لیے آئے۔ یعنی خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کی فطرت اس قدر تبدیل ہو جائے کہ وہ اپنے سارے دل اور اپنے دل کی خوشی سے خدا سے محبت رکھیں۔ اب تک آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ سب کچھ پرانے گناہ آلودہ فطرت والے دل کے ساتھ ممکن نہیں تھا۔

گناہ پر فتح

اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ، مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے، کہ تم اُس کی خواہشوں کے تابع رہو۔ اور اپنے اعضا ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالہ نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالہ کرو۔ اور اپنے اعضا راستبازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالہ کرو۔ اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا۔ کیوں کہ تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہو۔ (رومیوں 6: 11-14)

مسیح کے آنے سے پیشتر، بنی نوع انسان اپنی گناہ آلودہ فطرت کے غلام تھے۔ تصور کریں کہ ایک مچھلی یہ کہہ رہی ہے کہ میں تو سمندر میں رہتے رہتے اکتا گئی ہوں۔ اب میں خشک زمین پر رہا کروں گی۔ مچھلی کی فطرت سمندر میں رہنا ہے۔ جس طرح مچھلی خشکی پر نہیں رہ سکتی اسی طرح ہماری فطرت بھی گناہ سے باز نہیں آسکتی۔ بنی نوع انسان مچھلی کے پانی میں رہنے کی طرح گناہ کے سمندر میں پھنس گئے تھے۔ ہم صرف اور صرف ایک ہی فطرت کے غلام تھے جو کہ گناہ آلودہ فطرت ہے۔

ہم عہدِ متیق میں بنی اسرائیل پر نگاہ کرتے ہیں اور ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ کیوں وہ خداوند اپنے خدا کا بار بار مقابلہ کرتے تھے۔ ہم خدا کے بڑے بڑے مقدسین کو دیکھتے ہیں جو بھیا تک گناہوں میں گرفتار ہوئے اور یہ سب ہمارے لیے باعثِ حیرت ہے کہ ایسا کیوں کر ہوا۔ ہم آدم کو ممنوعہ پھل کھاتے، داؤد کو قتل کرتے اور زناہ کاری کا گناہ چھپانے کی کوشش کرتے۔ سلیمان کو بہت سی بیویوں کے گناہ آلودہ غلبہ کے زیرِ تاب آتے ہوئے، بطرس کو اپنے خداوند کا انکار کرتے اور دوسرے شاگردوں کو باغِ کشمندی میں اپنے خداوند کو تنہا چھوڑ کر بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کتاب مقدس کے صفحات بنی نوع انسان سے سرزد ہونے والی غلطیوں اور خطاؤں سے بھرے پڑے ہیں۔ کیا ہماری سرشت اس

قدر مجرمانہ ہے کہ ہم روحانی زندگی گزارنے سے قاصر ہیں؟

جو کچھ شریعت کرنے میں بے بس اور بے اختیار تھی، خداوند یسوع نے ہمارے لیے کر دیا۔ وہ ہمیں گناہ پر غلبہ اور فتح دینے کے لیے آئے۔ اُس کا یہ کام تین رشی ہے۔

اول۔ خداوند یسوع مسیح نے شریعت کے تمام تقاضوں کو پورا کیا اور صلیب پر قربان ہو کر ساری سزا برداشت کی۔ اس کا مطلب ہے کہ اب کوئی گناہ بھی ہمیں آسانی باپ سے جہانہ کر سکے گا۔

دوم۔ وہ سب جو خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں، وہ نئی فطرت حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ انہیں نیا دل دیتا ہے جو اُس کے لیے گوشتین ہو اور جس کی خوشی اور خرمی اُس کی مرضی پورا کرنا ہو۔ ہم آخری باب میں مختصر طور پر اس کا جائزہ لیں گے۔

سوم۔ خداوند ہمیں قوت دینے، ہمارا تحفظ کرنے اور ہماری رہنمائی کرنے کے لیے ہمارے دل میں اپنے پاک روح کو لاتا ہے۔ مقدس پولس رسول اس بات کو یوں واضح کرتے ہیں کہ ایک دیندار اور بیدار میں نمایاں فرق ایماندار کی زندگی میں پاک روح کی حضوری ہے۔ رومیوں 8:9 میں مقدس پولس رسول فرماتے ہیں۔

لیکن تم جسمانی نہیں ہو بلکہ روحانی ہو بشرطیکہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔

ان حقائق کا مرکب گناہ اور بدی کے خلاف ایک زبردست ہتھیار ہے۔ خدا اور انسان کے درمیان شرعی رکاوٹ ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کیے جانے کے باعث دور ہو چکی ہے۔ اب ہمارے پاس نیا دل ہے جو خداوند میں اور اُس کی راہوں میں سرور رہتا ہے اور اُسی کا طالب ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اپنی قوت دینے اور اپنی رہنمائی کیلئے اپنا پاک روح ہمارے دل میں رکھا ہے۔

پرانی مقلکیں اور نئی سے

اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ رومیوں 12:8-14 میں، مقدس پولس رسول روم کے ایمانداروں کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ پرانی فطرت کے اعتبار سے مر کر اُس نئی فطرت کے مطابق زندگی گزاریں جو انہیں پاک روح کے وسیلہ سے دی گئی ہے۔

”پس اے بھائیو! ہم قرضدار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں۔ کیوں کہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے۔ اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ (رومیوں 12:8-14)

پولس رسول کلسیوں 3:5-10 میں بھی یہی بات کہتے ہیں۔

پس اپنے اُن اعضا کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں یعنی حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو جو بت پرستی کے برابر ہے۔ کہ ان ہی کے سبب سے خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے۔ اور تم بھی جس وقت ان باتوں میں زندگی گزارتے تھے، اُس وقت ان ہی پر چلتے تھے۔ لیکن اب تم بھی ان سب کو یعنی غصہ اور قہر اور بدخواہی اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو۔ ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو۔ کیوں کہ تم نے پرانی انسانیت کو اُس کے کاموں سمیت اتار ڈالا۔ اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے۔

مقدس پولس رسول نے ایمانداروں کو چیلنج دیا کہ وہ جسمانی فطرت کے اعتبار سے مرکزئی انسانیت کو پہن لیں۔ رومیوں 6:11-14 میں لکھتے ہوئے اُس نے ایمانداروں کو یہ نصیحت کی کہ وہ گناہ کے اعتبار سے خود کو مردہ سمجھیں اور مردوں میں سے زندہ جان کر خود کو مسیح کے حوالہ کریں۔

”اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اُس کی خواہشوں کے تابع رہو۔ اور اپنے اعضا ناراستی کے ہتھیار ہونے

پرانی مقلکین اور نئی سے

کے لیے گناہ کے حوالہ نہ کرو۔ بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالہ کرو۔ اور اپنے اعضا راستبازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالہ کرو۔

غور کریں کہ مقدس پولس رسول نے روم کے ایمانداروں کو بتایا کہ وہ مردوں میں سے زندہ کیے گئے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ وہ خدا کے اعتبار سے مردہ ہونے کی وجہ سے اُس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے قابل نہیں تھے۔ اب وہ مسیح کے ماتحت ہو کر تبدیل شدہ ہیں۔ اب انہیں نئی فطرت دی گئی ہے۔ اور اب وہ اُس کے روح کی رہنمائی اور اُس کی قوت میں چلنے والے لوگ بن گئے ہیں۔ اگرچہ اب بھی ایمانداروں کو گناہ کے ساتھ کشمکش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اب وہ مسیح یسوع میں اپنے مختلف اور منفرد مقام کے سبب اُس پر غالب آسکتے ہیں۔ اب گناہ کا شرعی اختیار اُن کی زندگیوں پر سے ختم ہو چکا تھا۔ کیوں کہ خداوند یسوع مسیح نے قیمت ادا کر کے انہیں گناہ کی گرفت سے چھڑالیا تھا۔ اب وہ گناہ آلودہ فطرت میں زندگی گزارنے پر مجبور نہیں تھے۔ کیوں کہ اب انہیں نئی فطرت مل چکی تھی جو کہ خدا کی آواز سننے کے قابل اور اُسکی مرضی کی طالب تھی۔ اب وہ روحانی طور پر ایسے کمزور اور ناتواں نہیں تھے کہ گناہ ہی کرتے رہتے۔ کیوں کہ خدا نے انہیں اپنا پاک روح دیا تھا جس کی طاقت سے اب وہ گناہ پر غالب آسکتے تھے۔

جب تک ہم گناہ بھری دنیا میں رہتے ہیں ہمیں گناہ کے ساتھ کشمکش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گناہ کے باعث آزمائشیں ایمانداروں کو گھیر لیں گی اور بہت سی بھیا تک باتیں اُن کے ساتھ واقع ہوگی۔ تاہم ایمانداروں کے پاس گناہ شیطاں اور دنیا کے خلاف نبرد آزما ہونے کیلئے ایک لازمی ہتھیار موجود ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر ایمانداروں کے پاس ایک زندہ اُمید، خود اعتمادی اور یقین دہانی موجود ہے۔ وہ دور آ رہا ہے جب خداوند یسوع مسیح گناہ کی عدالت کرے گا اور اُس کے اثرات ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ختم کر دے گا۔ آسمان کی بادشاہی کا ذکر کرتے ہوئے مکاشفہ 27:21 میں خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے۔

اور اُس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھٹو نے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا۔ مگر وہی جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔

پرانی مقلکیں اور نئی سے

جو خداوند یسوع مسیح کے ہو چکے ہیں اُن سب کے لیے وہ دور آرہا ہے جب اُنہیں گناہ کے ساتھ کشمکش کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ گناہ اور اُسکے اثرات ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائیں گے۔ اُس روز ہر طرح کی بیماری، غم، رنج و الم، دکھ درد اور ہر طرح کی آزمائش کافور ہو جائے گی۔ ہم ابدالاً بادمسح کی حضوری میں رہیں گے۔ جہاں گناہ اور اُس کے اثرات پھر کبھی بھی محسوس نہیں کیے جائیں گے۔

خداوند یسوع مسیح اس نئی فطرت اور اپنے روح کے قوت بخش کام کے وسیلہ سے ہمیں اس زندگی میں فتح بخشنے کے سبب موسیٰ کی معرفت دی گئی شریعت کو پورا کرنے کے لیے آئے جو اُس نے ہم میں رکھی ہے۔ اُس نے ہم سے آنے والی زندگی میں گناہ اور اُس کے اثرات کو مکمل طور پر ختم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اب مسیح کے صلیبی کام اور اُس کے روح کے وسیلہ سے گناہ پر فتح ممکن ہے۔ اور جتنے مسیح یسوع کے ہو چکے ہیں اُنہیں آنے والی زندگی میں اس بات کی بھی ضمانت اور یقین دہانی مل چکی ہے۔

شریعت سے چھڑکارا

اگر خداوند یسوع مسیح نے عہدِ عتیق کی شریعت کو پورا کر دیا ہے تو کیا اب بھی مسیحی لوگ
اُس کے ماتحت ہیں؟

فضل سے نجات

تم جو شریعت کے وسیلہ سے راستہ زٹھرنا چاہتے ہو مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم۔ کیوں کہ ہم روح کے باعث ایمان سے راستہ بازی کی امید بر آنے کے منتظر ہیں۔ اور مسیح یسوع میں نہ تو ختمہ کچھ کام کا ہے نہ نا مختونی مگر ایمان جو محبت کی راہ سے اُتر کرتا ہے۔ (گلتیوں 4:5-6)

خداوند یسوع مسیح کے صلیبی کام نے شریعت کے تمام تقاضے پورے کرنے کے وسیلہ سے شریعت کو ختم کر دیا۔ اُس کے صلیبی کام پر ایمان لانے والوں کو شریعت کے بغیر راستہ زٹھرایا جاتا ہے۔ اور ایک نیا دل اور فتح مند مسیحی زندگی گزارنے کے لیے انہیں ضروری ہتھیاروں سے لیس کیا جاتا ہے۔ اب خدا کی عدالت سے مخلصی اور رہائی کا خدا کو خوش کرنے کے لیے ہماری کاوشوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ پرانے عہد نامہ کی شریعت پر عمل پیرا نہیں ہوتے، اب گناہوں کی معافی کی یقین دہانی اور اس نجات کا تجربہ حاصل کر سکتے ہیں جو خدا اپنے بیٹے کے وسیلہ سے پیش کرتا ہے۔

ابتدائی کلیسیا کو ایک بڑا مسئلہ درپیش تھا اور وہ یہ کہ نجات میں پرانے عہد نامہ کی شریعت کا کیا کردار ہے۔ بعض لوگوں نے کچھ اس طرح تعلیم دی کی جب تک کوئی ختمہ نہ کرائے اور موسیٰ کی شریعت پر عمل نہ کرے وہ نجات نہیں پاسکتا۔ (اعمال 1:15) اس تعلیم نے کلیسیا میں بڑی الجھل مچادی۔ درحقیقت اس اہم موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے ایک خاص مجلس بلائی گئی۔

اعمال 15 باب ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اہم مجلس یروشلیم میں بلائی گئی۔ اس موضوع پر بہت زیادہ بحث کرنے کے بعد پطرس، رسولوں اور جمع شدہ بھائیوں کے درمیان کھڑا ہو کر کہنے لگا۔

پرانی مقلکین اور نئی سے

اے بھائیو! تم جانتے ہو کہ بہت عرصہ ہوا، جب خدا نے تم لوگوں میں سے مجھے چنا کہ غیر قومیں میری زبان سے خوشخبری کا کلام سن کر ایمان لائیں۔ اور خدا نے جو دلوں کو جانتا ہے، اُن کو بھی ہماری طرح روح القدس دے کر اُن کی گواہی دی۔ اور ایمان کے وسیلہ سے اُن کے دل پاک کر کے ہم میں اور اُن میں کچھ فرق نہ رکھا۔ پس اب تم شاگردوں کی گردن پر ایسا جواز رکھ کر جس کو نہ ہمارے باپ دادا اٹھا سکتے تھے نہ ہم۔ خدا کو کیوں آزما تے ہو۔ حالانکہ ہم کو یقین ہے کہ جس طرح وہ خداوند یسوع کے فضل ہی سے نجات پائیں گے اسی طرح ہم بھی پائیں گے۔

(اعمال 15: 7-11)

پطرس نے اُس دن یہ گواہی بھی دی کہ اُس کی خدمت کے وسیلہ سے غیر قوموں میں خدا کا زبردست کام ہو رہا ہے۔ یہ غیر قومیں پرانے عہد نامہ کی شریعت کو نہیں مانتی تھیں۔ نہ تو وہ ختنہ کروا تیں اور نہ ہی اپنے گناہوں کے لیے کسی قسم کی قربانیاں گزرا تیں تھیں۔ اور نہ ہی یہودیوں کی طرح عیدیں اور خاص دنوں کو مناتی تھیں۔ اس حقیقت کے باوجود کہ غیر قوموں کو شریعت سے کوئی سروکار نہیں تھا، خدا بڑی قدرت سے انہیں چھوڑا اور اُن کو پاک روح سے معمور کر رہا تھا۔ پطرس کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر خدا نے غیر قوموں کو قبول کر لیا ہے جو موسیٰ کی شریعت کو نہیں مانتیں تو پھر کلیسیا کو بھی چاہئے کہ وہ انہیں بھی یہودیوں کے ساتھ اسی معیار کے ساتھ قبول کر لے۔

پولس اور برناباس نے بھی اپنی خدمت میں خدا کے ایسے ہی کام کی گواہی دی۔ کونسل پر دباؤ ڈالا گیا کہ اس بات کو تسلیم کر لے کہ خدا بلاشبہ غیر قوموں میں عظیم کام کر رہا ہے اور اُن کو بھی پاک روح بخشتا ہے جو موسیٰ کی شریعت کے ماننے والے نہیں ہیں۔ کونسل اس نتیجہ پر پہنچی کہ ایک شخص شریعت کے بغیر بھی نجات پاسکتا ہے۔ کونسل کے فیصلے نے جھوٹے اُستادوں کی اس تعلیم کو رد کر دیا کہ ایک شخص کو نجات پانے کیلئے موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنا اور ختنہ کروانا لازمی ہے۔ یروشلیم کی کونسل نے اُس دور کے ایمانداروں کے لیے اس معاملہ کو ہمیشہ کیلئے پنہاں کیا۔ نجات مکمل طور پر مسیح کے کام پر منحصر ہے۔ اس سے غیر قوم سے ایمان لانے والے اُن لوگوں کے لیے دروازے کھل گئے جو یہودی معیار کے ایمانداروں کے طور پر مسیح میں بھائی اور بہن کے طور پر قبول کئے جانے کے لیے شریعت پر عمل نہیں کرتے تھے۔

پرانے عہد نامہ میں ”موسیٰ کی شریعت پر عمل پیرا ہوئے بغیر نجات“ عہد جدید کی انتہائی اہم تعلیم ہے۔ مقدس پولس

پرانی مقلکیں اور نئی سے

رسول رومیوں 20:3-24 میں، اس کے بارے میں بڑے واضح طور پر بیان کرتے ہیں۔
 ”کیوں کہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راستہ نہیں ٹھہرے گا۔ اس لیے کہ شریعت کے وسیلہ سے تو
 گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے۔ مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راستہ بازی ظاہر ہوئی ہے جس کی گواہی شریعت اور
 نبیوں سے ہوتی ہے۔ یعنی خدا کی وہ راستہ بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل
 ہوتی ہے۔ کیوں کہ کچھ فرق نہیں۔ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ مگر اس کے فضل کے
 سب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے، مفت راستہ بازی ٹھہرائے جاتے ہیں۔“

غور کریں کہ پولس رسول یہاں پر اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص شریعت پر عمل کرنے سے راستہ نہیں
 ٹھہرے گا۔ یعنی شریعت پر عمل پیرا ہو کر خدا کے حضور راستہ بازی ٹھہرنا ممکن نہیں ہے۔ پولس رسول مزید بیان کرتے ہیں
 کہ خدا کے حضور راستہ بازی ٹھہرنا صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے صلیبی کام پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہی ممکن
 ہے۔ مقدس پولس رسول کے مطابق اب موسیٰ کی شریعت پر عمل پیرا ہونے والے اور اس کو نظر انداز کرنے والے
 یہودیوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ تمام گناہ گار تھے اور سب کو گناہوں کی معافی کی ضرورت تھی۔ مسیح پر ایمان
 لانے والوں کو مفت معافی ملتی ہے۔ نجات اور خدا کے حضور راستہ بازی ٹھہرنے کا پرانے عہد نامہ کے آئین و احکام اور
 قواعد و ضوابط سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

مقدس پولس رسول رومیوں 3:21 میں اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ پرانے عہد کے انبیاء اور شریعت سب ایک
 ایسی نجات کی طرف اشارہ کرتے تھے جو شریعت کے بغیر ملنے والی تھی۔

”مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک ایسی راستہ بازی ظاہر ہوئی ہے جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے۔“

ایک شخص کیسے خدا کے حضور راستہ بازی ٹھہرتا ہے؟ مقدس پولس رسول رومیوں 3:22-24 میں، اس بات کو واضح کرتے
 ہیں۔

پرانی مقلدیں اور نئی سے

یعنی خدا کی وہ راستبازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ کیوں کہ کچھ فرق نہیں۔ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ مگر اُس کے فضل کے سبب سے اُس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راستباز ٹھہرائے جاتے ہیں۔

خدا کے حضور راستبازی خداوند یسوع مسیح کے ہمارے لیے انجام دیئے گئے کام پر ایمان لانے سے حاصل ہوتی ہے، قبول کیے جانے کے لیے ہمیں کسی خاص معیار پر پورا نہیں اُترنا پڑتا۔ جو کچھ مسیح نے ہمارے لیے سرانجام دیا ہے ہمیں سادگی سے اُس کام پر ایمان لانا ہے۔

گلتیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول اپنے خط میں اُن لوگوں سے سختی سے ہم کلام ہوتے ہیں جو اس بات پر اصرار کرتے تھے کہ خدا کے حضور مقبول و منظور ٹھہرنے کیلئے ہمیں شریعت پر عمل کرنا جاری رکھنا ہوگا۔ مقدس پولس رسول کے نزدیک وہ لوگ جو شریعت کی بنیاد پر خدا کے حضور مقبولیت کے خواہشمند تھے وہ ”فضل سے نجات“ کی تعلیم سے دور گمراہی کی طرف جا رہے تھے۔ وہ اُس کام کی اہمیت کی بھی نفی کر رہے تھے جو مسیح نے اُن کے لیے کیا تھا۔ درحقیقت وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اُنہیں مسیح کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنی نجات کے لیے مستحق ہو سکتے ہیں یعنی شریعت پر عمل پیرا ہونے سے نجات اُن کا حق ہوگی۔ وہ مسیح کے کام کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے تھے۔

”تم جو شریعت کے وسیلہ سے راستباز ٹھہرنا چاہتے ہو مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم۔“ (گلتیوں 4:5)

مقدس پولس رسول کے نزدیک یہ بات بالکل واضح تھی کہ نجات کا شریعت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ صرف اور صرف اگر کسی کام کی اہمیت ہے تو وہ یہ کہ مسیح کے صلیبی کام پر ایمان لایا جائے۔

”اور مسیح میں نہ تو تختہ کچھ کام کا ہے نہ نامختونی۔ مگر ایمان جو محبت کی راہ سے اشر کرتا ہے۔“ (گلتیوں 6:5)

نئے عہد نامہ کے مصنفین کے ذہنوں میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ ایک شخص پرانے عہد نامہ کی شریعت پر عمل پیرا ہوئے بغیر نجات پاسکتا ہے۔ نجات کا کلی دار و مدار صرف اور صرف اُس کام پر ہے جو مسیح نے ہمارے لیے صلیب پر کر دیا ہے۔ ہمارا اعتماد اور بھروسہ صرف اور صرف اُس کام پر ہونا چاہئے جو اُس نے ہمارے لیے کیا ہے۔ ناکہ راستبازی کے اُن کاموں پر جو ہم کر سکتے ہیں۔

شریعت کی موت

اے بھائیو! کیا تم نہیں جانتے (میں اُن سے کہتا ہوں جو شریعت سے واقف ہیں) کہ جب تک آدمی جیتا ہے، اُس وقت تک شریعت اُس پر اختیار رکھتی ہے؟ چنانچہ جس عورت کا شوہر موجود ہے وہ شریعت کے موافق اپنے شوہر کی زندگی تک اُس کے بند میں ہے۔ لیکن اگر شوہر مر گیا تو وہ شوہر کی شریعت سے چھوٹ گئی۔ پس اگر شوہر کے جیتے جی دوسرے مرد کی ہو جائے تو زانیہ کہلائے گی۔ لیکن اگر شوہر مر جائے تو وہ اس شریعت سے آزاد ہے۔ یہاں تک کہ اگر دوسرے مرد کی ہو بھی جائے تو زانیہ نہ ٹھہرے گی۔ پس اے میرے بھائیو! تم بھی مسیح کے بدن کے وسیلہ سے شریعت کے اعتبار سے اس لیے مردہ بن گئے کہ اُس دوسرے کے ہو جاؤ جو مردوں میں سے چلایا گیا تاکہ ہم سب خدا کے لیے پھل پیدا کریں۔ (رومیوں 7: 1-4)

جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تو کیا واقعہ ہوا؟ جب اُس نے صلیب پر جان دی تو اُس نے ہمارے تمام گناہوں کی سزا اپنے اوپر لے لی۔ شریعت جس قیمت کا تقاضا کرتی تھی، اُس نے وہ قیمت ادا کر دی ہے۔ اور یوں ہمیں شریعت کی سزا اور غضب سے آزاد کر دیا۔

اس کے علاوہ صلیب پر کچھ اور بھی رونما ہوا۔ جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر قربان ہوئے تو انہوں نے عہد عتیق کی شریعت کے تمام تقاضے پورے کر دیئے۔ پورا کرنے کا مطلب ہے تمام تقاضے پورے کر کے کسی چیز کو ختم کر دینا۔ اس مطالعہ کے شروع میں ہم نے ایک ایسے طالب علم کی مثال کو اپنے سامنے رکھا تھا جو کسی یونیورسٹی سے گریجوایٹ ہو رہا ہے۔ یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرنے کے لیے اُس طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ یونیورسٹی کے مقرر کردہ تمام تقاضے پورے کرے۔ اسی لیے مسیح ہماری خاطر صلیب پر قربان ہوا۔ اُس نے شریعت کے تمام تقاضے پورے کر کے اُس کو مکمل کر دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ شریعت مسیح کے ساتھ صلیب پر ختم ہو گئی۔ اُسکے ذمہ کرنے کا جو کام تھا اُس نے اُسے مکمل

کر دیا۔ اُس نے اُس دن اس بات کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ اب یہ سب کچھ ایمان کے تحت ہوگا۔

شریعت کا طریقہ کا ختم ہو چکا ہے۔ بطور ایماندار یہ بات ہمارے لیے بہت اہم مفہوم رکھتی ہے۔
اس بات کی وضاحت کے لیے مقدس پولس رسول رومیوں 1:7-4 میں ہمارے رشتہ کو شادی کے بندھن سے تشبیہ دیتے ہیں۔

مسیح کے آنے سے پیشتر پرانے عہد نامہ کے ایماندار شریعت کے ساتھ شادی کی طرح ایک گہرے بندھن میں تھے۔ انہیں اس شریعت سے وفادار رہنا اور اپنے آپ کو اُس کے لیے وقف کرنا ہوتا تھا۔ جب شریعت کا خاتمہ ہو گیا تو یہ سب کچھ بھی بدل گیا۔ شریک حیات کی موت اُس کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمانے سے آزاد کر دیتی ہے۔ زندہ رہنے والا شخص اب دوبارہ شادی کرنے کے لیے شرعی طور پر آزاد ہو جاتا ہے۔ جب خداوند یسوع صلیب پر قربان ہوئے تو کچھ ایسا ہی وقوع پزیر ہوا۔ ایماندار موسیٰ کی شریعت کے قواعد و ضوابط سے آزاد ہو گئے اور انہیں مسیح کے ساتھ ایک نئے عہد میں بندھنے کے لیے بلا یا گیا۔

ایماندار لوگ اب مسیح کیلئے وقف شدہ ہیں۔ اب انہیں دیگر سب چیزوں کا انکار کرتے ہوئے اپنا توکل اور بھروسہ صرف اور صرف مسیح پر کرنا ہے۔ اب وہ اپنے سابقہ شریک حیات کے ماتحت نہیں ہیں۔ درحقیقت اب اُس پرانے ساتھی کی تمنا اور آرزو بالکل غیر واجب ہو گئی۔ مسیح کے ساتھ شامل ہونے سے ہم اپنے پرانے ساتھی کو ترک کرتے ہیں۔ لازم ہے کہ اب ایماندار شریعت کے طریقہ کار سے دستبردار ہو جائیں اور صرف مسیح پر ہی اپنا توکل اور بھروسہ کریں۔

اب ہم شریعت سے آزاد ہو کر مسیح اور روح کے نئے طریقہ کار کے ساتھ ایک ہو چکے ہیں۔

”لیکن جس چیز کی قید میں تھے اُس کے اعتبار سے مرکز اب شریعت سے ایسے چھوٹ گئے کہ روح کے نئے طور پر نہ کہ لفظوں کے پرانے طور پر خدمت کرتے ہیں۔“ (رومیوں 6:7)

بہت سے لوگوں نے اس حقیقت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ اُن کا پرانا شریک حیات مرچکا ہے۔ وہ شریعت کے طریقہ کار کے تحت خدا کے حضور مقبول و منظور ٹھہرنے کے لیے ابھی تک شریعت سے لپٹے ہوئے ہیں۔ وہ اب بھی شریعت کے طالب ہیں اور اپنی کاوشوں سے خدا کے حضور مقبول ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ وہ مسیح کے ساتھ اپنے رشتہ میں نشوونما نہیں پاسکتے کیونکہ وہ اب بھی اُس شریک حیات کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں جو دو ہزار سال پہلے مر گیا تھا۔ وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ صرف اور صرف مسیح کے کام کے وسیلہ سے ہی مسیح یسوع میں قبول کیے جاسکتے ہیں۔

کیا خداوند یسوع مسیح نے مکمل طور پر شریعت کو پورا نہیں کیا؟ کیا وہ ہمیں اُسکے ایسے معیار سے آزاد کرنے کے لیے قربان نہیں ہوا جس تک انسان کی رسائی ممکن تھی؟ کیا شریعت کا مقصد ہماری رہنمائی خداوند یسوع مسیح اور اُس کے صلیبی کام کی طرف کرنا نہیں تھا؟ کیا یسوع ہمیں بلا نہیں رہا کہ ہم صرف اور صرف اُس پر ہی توکل اور بھروسہ کریں؟ شریعت کے طور طریقوں سے لپٹے رہنا، اس بات کو سمجھنے میں ناکامی ہے کہ شریعت کا مقصد ہماری رہنمائی خداوند یسوع مسیح اور اُسکے صلیبی کام کی طرف کرنا تھا۔

بطور ایماندار ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم شریعت کے پرانے طور طریقوں کی طرف سے مر جائیں۔ مقدس پولس رسول ہمیں رومیوں 4:7 میں بتاتے ہیں۔

“پس آے میرے بھائیو! تم بھی مسیح کے بدن کے وسیلہ سے شریعت کے اعتبار سے اس لیے مردہ بن گئے کہ اُس دوسرے کے ہو جاؤ جو مردوں میں سے جلا یا گیا تاکہ ہم سب خدا کے لیے پھل پیدا کریں۔“

مسیح اور اُس کے کام پر ایمان رکھنے والے لوگوں کی حیثیت سے ہم شریعت اور اُس کے پرانے طور طریقوں کے طالب نہیں ہوتے۔ اب ہمارا مکمل بھروسہ اور توکل مسیح اور اُس کے صلیبی کام پر ہونا چاہئے۔ اب ہمیں شریعت کے طریقوں کو ترک کرنا ہوگا۔ اس سے کچھ بھی کم کا مطلب مسیح سے بے وفائی اور اُس کے صلیبی کام کا انکار ہوگا۔

شریعت بطور ہماری سرپرست

لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وارث جب تک بچہ ہے، اگرچہ وہ سب کا مالک ہے اُس میں اور غلام میں کچھ فرق نہیں۔ بلکہ جو معیاد باپ نے مقرر کی ہے۔ اُس وقت تک سرپرستوں اور مختاروں کے اختیار میں رہتا ہے۔ اسی طرح جب تم بھی بچے تھے تو دنیوی ابتدائی باتوں کے پابند ہو کر غلامی کی حالت میں رہے۔ لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا۔ تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو ممول لے کر چھڑالے اور ہم کو لے پا لک ہونے کا درجہ ملے۔ اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دل میں بھیجا، جو آبا یعنی اُسے باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ پس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے۔ اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلے سے وارث بھی ہوا۔ (گلتیوں 7:1-4)

پچھلے باب میں ہم نے دیکھا کہ کیسے پولس رسول نے ہمارے رشتہ کو شریعت کے ایک ایسے ساتھی سے تشبیہ دی جو مرچکا ہے؟ کیوں کہ شریعت کے ضابطے اب قابل نافذ نہیں رہے۔ اب ہم مسیح کے ساتھ شامل ہونے اور روح کے نئے طور پر چلنے کے لیے شریعت سے آزاد ہو چکے ہیں۔ مقدس پولس رسول ہمیں رومیوں 2:1-8 میں بتاتے ہیں۔

”پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں اُن پر سزا کا حکم نہیں۔ کیوں کہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔“

پولس رسول اور ابتدائی ایمانداروں کے ذہن میں قطعاً کوئی شک نہیں تھا کہ وہ شریعت کے طور طریقوں سے آزاد ہو چکے ہیں۔

پرانی مہکتیں اور نئی سے

گلتیوں 1:4-7 میں مقدس پولس رسول زندگی کی ایک اور تصویر کو اس بات کی وضاحت کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ کیسے ہم شریعت سے آزاد ہوئے ہیں۔ وہ پرانے عہد نامہ کی شریعت سے ہمارے رشتہ کو ایک بچے سے تشبیہ دیتے ہیں جو اپنے باپ کی میراث کا وارث ہوتا ہے۔ وہ اپنے قارئین کو یاد دلاتے ہیں کہ یہ بچہ اپنی زندگی کے ابتدائی سالوں میں کسی طور پر بھی غلاموں سے مختلف نہیں ہوتا۔ اگرچہ وہ اپنے باپ کی تمام میراث کا مالک اور وارث ہوتا ہے۔ تو بھی جب تک وہ بچہ ہے اپنی میراث کے حصہ سے کوئی فائدہ نہیں لے سکتا۔ جب تک وہ بڑا نہیں ہو جاتا وہ اپنے سرپرستوں اور امانت داروں کے ماتحت رہے گا۔ اُسے اُن کی سننا اور اُن کی تابعداری کرنا پڑے گا۔ صرف اسی لمحہ جس کا باپ فیصلہ کرے، وہ جائیداد کا مختار بن سکے گا۔ اُس وقت وہ اپنے اُستادوں اور سرپرستوں سے آزاد ہو کر اپنی دولت سے لطف اندوز ہو سکے گا۔

جب بچہ اپنی بالغ عمر کو پہنچتا ہے تب اُس کا اپنے سرپرست سے رشتہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ کردار یکسر بدل جاتے ہیں۔ اب سرپرست کا اُس وارث بننے پر مزید کوئی اختیار نہیں رہتا۔ اب وہ اپنے سرپرست کے سامنے کسی بات کے لیے جوابدہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنے سرپرست کی گہمداشت سے آزاد ہو جاتا ہے۔

مقدس پولس رسول کے مطابق شریعت بھی اسی سرپرست کی مانند تھی۔ اُس کا کردار ہمارا تحفظ اور ہماری رہنمائی کرنا تھا۔ اُس نے ہماری میراث کی طرف رہنمائی کی اور ہمیں اُس میراث کو قبول کرنے کے لیے تیار کیا۔ جب تک ہم اُس شریعت کی سرپرستی میں تھے ہم پر اُس کی تابعداری کرنا فرض تھا۔ جب وقت پورا ہوا تو باپ نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا تاکہ ہمیں شریعت سے آزاد کر کے ہمیں ہماری میراث دے۔ اب خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہم اپنے تعلق اور رشتہ کی بنیاد پر تمام روحانی برکات کا تجربہ کرتے ہیں۔

یسوع مسیح کے کام کے وسیلہ سے ہمیں اپنی میراث لینے کے لیے تیار کیا گیا۔ گناہ کی دیوار کو گرا دیا گیا، ہمیں نیا دل دیا گیا اور خدا کے روح نے ہماری زندگی کو اپنا مسکن بنا لیا۔ گناہ پر فتح مند زندگی گزارنے کے لیے ہمیں جو کچھ درکار تھا وہ سب ہمیں دے دیا گیا ہے۔ اب مسیح کے پورے وارث ہونے کی حیثیت سے اب پرانے سرپرست کا ہم پر کوئی اختیار نہیں رہا۔

پرانی مقلبتیں اور نئی سے

افسیوں 2:14-15 میں مقدس پولس رسول خداوند یسوع مسیح کے کام کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔

”کیوں کہ وہی ہماری صلح ہے۔ جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ چنانچہ اُس نے اپنے جسم کے ذریعہ سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے، موقوف کر دی۔ تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرادے۔“

خداوند یسوع مسیح نے اپنی صلیبی موت کے وسیلہ سے شریعت کو اُس کے تمام آئین و احکام اور ضابطوں سمیت پورا کر دیا ہے۔ شریعت بطور ہماری سرپرست اور معلم اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکی ہے۔ پرانے عہد نامہ کی شریعت و فادار اور اچھی سرپرست تھی۔ لیکن جب سے خداوند یسوع مسیح مصلوب ہو کر فتن ہونے کے بعد زندہ ہو چکے ہیں، اُس وقت سے اب تک ایمان داری کی زندگی میں اُس کے ادا کرنے کے لیے کوئی کردار باقی نہیں بچا۔

عبرانیوں 7:8-13 ہمیں یرمیاہ نبی کی معرفت کیا گیا کلام یاد دلاتا ہے جس نے کہا۔

”دیکھ وہ دن آتے ہیں خداوند فرماتا ہے۔ جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہوداہ کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا۔ اُس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے اُن کے باپ دادا سے کیا۔ جب میں نے اُن کی دنگیری کی تاکہ اُن کو ملک مصر سے نکال لاؤں اور اُنہوں نے میرے اُس عہد کو توڑا۔ اگرچہ میں اُن کا مالک تھا خداوند فرماتا ہے۔

(یرمیاہ 31:31-32)

یرمیاہ نبی اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ایک نیا عہد باندھے گا۔ یہ عہد پرانے عہد کی مانند نہیں ہوگا۔ (یرمیاہ 31:32، 8، 9) یہ ایک نیا عہد ہوگا۔ اُس پرانے عہد کو اُس کے قوانین اور اصول و ضوابط سمیت کیا ہو گیا؟ عبرانیوں کا مصنف عبرانیوں 13:8 میں مزید وضاحت سے بیان کرتا ہے۔

اور جب اُس نے نیا عہد کہا تو پہلے کو پرانا ٹھہرایا اور جو چیز پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہے، وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے۔

پرانی مشکلیں اور نئی سے

نیا عہد جو خدا نے باندھنا تھا اُس نے پرانے عہد کی جگہ یعنی تھی۔ پرانا عہد نامہ منسوخ کر دیا گیا۔ اُس پرانے عہد نامہ کے ذمہ جو کام تھا اُس نے وہ کام مکمل کر لیا ہے اور اس نئے کام کی جگہ کوئی نیا کام نہیں لے سکتا۔ پرانا عہد نامہ اپنے تمام تر ضابطوں اور ذمہ داریوں سمیت ختم ہو گیا۔ ہم اُس کے اختیار سے مخلصی پانچکے ہیں۔

خواہ یہ سابقہ شریک حیات کی مثال ہو وارث کا اپنے سرپرست سے رشتہ کی مثال یا پھر پرانے عہد نامہ کی جگہ نئے عہد کی حقیقت ہو۔ پولس رسول کا مقصد اپنے قارئین کو یہ باور کروانا ہے کہ بطور ایماندار اب ہماری حیثیت اور مقام یکسر تبدیل ہو چکا ہے۔ پرانا عہد نامہ مسیح کے آنے تک ہمارا سرپرست تھا۔ اب شریعت کے ساتھ ہمارا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ اب ہم اُس سے آزاد ہو چکے ہیں تاکہ روح کے نئے طور پر خدمت کر سکیں۔

نیارہنما

پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں اُن پر سزا کا حکم نہیں۔ کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا یعنی اُس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا۔ تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو۔ جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ (رومیوں 4:1-8)

رومیوں 7:14-24 میں پولس رسول گناہ کے ساتھ اپنی کشمکش کو بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ اُسے بڑی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا جب اُس نے خود کو وہ کرتے پایا جو وہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ تو اچھے کام کرنا چاہتا تھا۔ لیکن گناہ کے ساتھ کشمکش کا مسئلہ اُس میں موجود تھا۔ اُس کی اپنی قوت اُس بدی پر غالب آنے کے لیے ناکافی تھی۔ جو اُس میں موجود تھی۔ اپنے دل سے تو وہ خدا کی راہوں کا طالب تھا لیکن اُس نے اپنے آپ کو ابھی تک جسم کی گناہ آلودہ رصبتوں اور خواہشوں سے جنگ کرتے ہوئے پایا۔ رومیوں 7:24 میں مقدس پولس رسول پکارا اٹھے۔

”ہائے میں کیسا کجخت آدمی ہوں۔ اس موت کے بدن سے مجھے کون چھراے گا؟“

پولس رسول آٹھویں باب میں اپنے قارئین کو یاد دلاتے ہیں کہ گناہ کی سزا مکمل طور برداشت کر لی گئی ہے۔ ”پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں اُن پر سزا کا حکم نہیں۔“ پولس رسول پہلی آیت میں گناہ کے ساتھ اپنی کشمکش کے حوالہ سے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ اُسکے تمام شرعی اور قانونی تقاضے پورے ہو چکے ہیں۔ اور اب یہ گناہ کبھی بھی اُسے خدا سے جدا نہیں کر سکے گا۔ یہاں پر پولس رسول کے دل کی پکار خدا کے حضور مقبول و منظور ٹھہرنے کے لیے نہیں تھی بلکہ گناہ پر جاری رہنے والی فتح میں اُس کی خدمت کرتے ہوئے اپنی محبت کے اظہار کے لیے تھی۔

پرانی مقلکین اور نئی سے

یہ بات سچ ہے کہ بطور ایماندار ہم کاملیت سے بہت دور ہیں۔ لیکن اس بات کا قوی امکان ہے کہ نہ صرف ایمانداروں سے گناہ کا سرزد ہو جانا ممکن ہے بلکہ اکثر و بیشتر ایسا ہوگا۔ پولس رسول کو خود بھی گناہ کے ساتھ کشکاش کا سامنا کرنا پڑا۔ اُسے اس حقیقت میں بڑی تسلی ملی کہ مسیح کی موت میں تمام گناہوں کی سزا برداشت کر لی گئی ہے۔ اگرچہ ایمانداروں سے گناہ سرزد ہو بھی جائے تو بھی وہ گناہ انہیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکے گا۔

چونکہ مسیح میں ہمارا استباہ ٹھہرنا یقینی تو ہے لیکن یاد رکھیں کہ ہمارے گناہ آلودہ رقیوں اور بدکرداریوں کے باعث یہ رفاقت ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ ایک ایماندار خدا کے ساتھ قربت جبکہ گناہ کے سبب خداوند کے ساتھ اپنی رفاقت میں دوری کا تجربہ بھی کر سکتا ہے۔ گناہ مسیح کے ساتھ میری گہری قربت اور رفاقت میں خلل پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن یہ میری نجات کو مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ اب ایمانداروں پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ کیونکہ یسوع نے ان کے سب گناہوں یعنی ماضی حال اور مستقبل کے گناہوں کی سزا اپنے اوپر لے لی ہے۔

گناہ کے ساتھ کشکاش میں پولس رسول کو ایک اور بڑی تسلی اس حقیقت سے ملی کہ خدا نے نہ صرف سزا کی قیمت کا احاطہ کیا بلکہ اس گناہ پر ہر روز فتح کو بھی یقینی بنا دیا ہے۔ وہ روم میں موجود مسیحیوں کو بتاتے ہیں کہ اب ایماندار کی زندگی میں ایک نئی شریعت کا فرما ہے۔

کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔
(رومیوں 2:8)

پولس رسول اس آیت میں دو طرح کی شریعتوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ ہم پہلے ہی گناہ اور موت کی شریعت کا جائزہ لے چکے ہیں۔ یہ واضح طور پر پرانے عہد نامہ میں موسیٰ کی شریعت کی طرف اشارہ ہے۔ جس کی اطاعت پورے طور پر کوئی بھی نہ کر سکتا تھا۔ اس شریعت نے ہم پر ہماری ضرورت کو واضح کرتے ہوئے بطور گناہ گار ہمیں مجرم ٹھہرایا جو کہ خدا کے معیار پر پورے نہیں اتر سکتے تھے۔ یہ شریعت عدالت اور موت کا باعث بنی۔

ایک اور طرح کی شریعت جس کا حوالہ پولس رسول رومیوں 2:8 میں دیتے ہیں۔ وہ زندگی کے روح کی شریعت ہے۔

پرانی مقلبتیں اور نئی سے

وہ روم کے ایمانداروں کو بتاتے ہیں کہ ”اس زندگی کے روح کی شریعت نے اُسے موت اور گناہ کی شریعت سے آزاد کر دیا ہے۔“ یرمیاہ نبی نے اس بات کی پیش گوئی کی کہ وہ دن آتے ہیں جب خدا اپنے لوگوں سے ایک نیا عہد باندھے گا۔ یرمیاہ 33:31 کے مطابق اس نئے عہد کے تحت جو اہم تبدیلیاں واقع ہوں گی وہ یہ ہیں کہ خدا اپنے آئین و احکام اپنے لوگوں کے ذہنوں اور دلوں پر لکھے گا۔

بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں اُن دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا۔ خداوند فرماتا ہے۔ میں اپنی شریعت اُن کے باطن میں رکھوں گا اور اُن کے دل پر لکھوں گا اور میں اُن کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔
(یرمیاہ 33:31)

پرانی عہد نامہ کی شریعت پتھر کی لوحوں پر لکھی ہوئی تھی۔ جبکہ نئے عہد نامہ کی شریعت خدا کے لوگوں کے دلوں اور ذہنوں پر لکھی گئی۔ یعنی وہ لوگ جو اُس کے ہو چکے ہیں اُن کے کردار میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔

2- کرنتھیوں 3:3 میں مقدس پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا سے ہم کلام ہوتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔
”ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ حط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا۔ سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کے روح سے۔ پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی یعنی دل کی تختیوں پر۔“

جب پولس رسول نے کرنتھس کے ایمانداروں کو دیکھا تو اُسے معلوم ہوا کہ وہ بے دلی سے کسی بیرونی (جس کا تعلق دل سے نہ ہو) شریعت کی پیروی نہیں کر رہے تھے۔ اُن کے دل واقعی تبدیل ہو چکے تھے۔ وہ جو مسیح کے پاس آتے ہیں انہیں ایک نیا دل ملتا ہے۔ یہ دل اُن کے پرانے دل کی مانند نہیں۔ اس نئے دل میں خدا کے لیے نرمی اور خدا کے کلام اور اُس کی باتوں کے لیے ایک تڑپ پائی جاتی ہے۔ یہ دل اب خدا کے روح کی آواز سن سکتا اور اُس کی رہنمائی میں چل سکتا ہے۔

پرانی فطرت میں خدا کے کلام اور اُس کی باتوں کے لیے کوئی تڑپ نہ تھی۔ اور نہ ہی وہ خدا اور اُسکی رہنمائی کے لیے حساس تھی۔ مسیح کے صلیبی کام نے ہمیں نیا دل دینے کے وسیلہ سے پرانی فطرت کو یکسر بدل دیا۔

پرانی مقلکین اور نئی سے

مقدس پولس رسول رومیوں 6:8 میں ہمیں بتاتے ہیں۔ ”مگر جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ پولس رسول ایمانداروں کو دی جانے والی نئی نیت کے تعلق سے دو چیزیں بیان کرتے ہیں۔

پرانی گناہ آلودہ فطرت اور نیت نہ تو خدا کی چیزوں کے بارے میں دلچسپی رکھتی تھی اور نہ ہی یہ روحانی حقائق کو سمجھتی تھی۔ تاہم روحانی نیت قطعی مختلف ہے۔ یہ خدا اور اُس کی راہوں کے لیے زندہ اور حساس ہے۔ یہ وہ نیت ہے جو خدا کے روح کی رہنمائی اور ہدایات کیلئے بہت حساس ہوتی ہے۔

اس بات پر بھی غور کریں کہ روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ یہ نئی نیت پرانی نیت کی طرح نہیں ہے۔ پیدائش 5:6 میں خدا کا کلام انسانی نیت کے بارے میں بیان کرتا ہے۔

اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی ہے۔ اور اُس کے دل کے خیال اور تصور سدا بڑے ہی ہوتے ہیں۔

پرانی نیت کے خیال اور تصور ہمیشہ ہی سے خدا کے خلاف ہیں۔ خدا یہاں پر ہمارا باپ ہے کہ انسان کے دل کے خیال اور تصور سدا بڑے ہی ہوتے ہیں۔ پرانی اور گناہ آلودہ فطرت خدا کی مخالف اور اُس کے تابع ہونے سے قاصر تھی۔

اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے کیوں کہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ (رومیوں 7:8-8)

تاہم ایماندار ایک ایسی نیت اور سوچ رکھتا ہے جس پر خدا کے روح کا تسلط ہوتا ہے۔

لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو بشرطیکہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اُس کا نہیں۔ (رومیوں 9:8)

یہ آیات ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا نے ایمانداروں کو ایک نئی فطرت دی ہے۔ (ذہن

پرانی مقلبتیں اور نئی سے

اور اول) جو اُس کی آواز سن سکتی اور اُس کی راہوں کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے۔ اُس نے ہر ایماندار کی حفاظت، رہنمائی اور اُسے قوت سے ملبس کرنے کے لیے اپنا پاک روح دیا ہے تاکہ وہ اُس کی دل پسند راہوں پر چل سکے۔ یوں ایماندار کی زندگی میں ایک بہت بڑی کشش کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پرانی نیت تو جسم کی رنجشوں اور خواہشوں کو پورا کرنا چاہتی ہے۔ ایماندار میں نئی نیت خدا اور اُس کی راہوں کی بھوک اور پیاسی ہوتی ہے۔ پولس رسول نے تمام ایمانداروں کو یہ چیلنج دیا کہ وہ پرانی باتوں، روٹیوں اور عادات کو ختم کر دیں۔ اور خدا کے روح کی ہدایات اور رہنمائی میں چلیں۔

کیوں کہ اگر جسم کی مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے۔ اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔“ (رومیوں 13:8)

رومیوں 17:8 پر غور کریں کہ وہ زندگی جو خدا کے روح کی رہنمائی اور ہدایات اور قوت میں چلتی ہے ہمیشہ ہی آسان اور سہل نہ ہوگی۔ بعض اوقات ہمیں مسیح کے دکھوں میں شریک ہونے کے مواقع بھی میسر ہوں گے۔

اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں۔ یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث۔ بشرطیکہ ہم اُس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اُس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔

روح میں زندگی بعض اوقات ایذا رسانی اور سختیوں کی طرف ہماری رہنمائی کرے گی۔ وہ لوگ جو روح میں زندگی گزارتے اور روح کی قوت اور رہنمائی میں چلتے ہیں انہیں ایذا رسانی کے لیے بھی تیار رہنا چاہئے۔ یہ دنیا ہمیں یا ہماری زندگی میں روح کی رہنمائی کو نہیں سمجھ پائے گی۔ ہم اس دنیا میں قطعی مختلف اور منفرد قسم کے لوگ دکھائی دیں گے۔ ممکن ہے کہ لوگ ہمارا مضحکہ اڑائیں اور ہمیں رد کریں۔ بعضوں کو روح کی رہنمائی میں چلنے اور اُسکی تابعداری کی وجہ سے دکھ اٹھانا جبکہ بعض کو موت کا حزا بھی پکھنا پڑے گا۔ غور کریں کہ جو لوگ مسیح کے دکھوں میں شامل ہوں گے، وہ اُسکے ساتھ جلال بھی پائیں گے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ایماندار یہ آوازیں سنیں گے ”شاباش“ وہ اُسکے جلال کی خوشی میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائیں گے۔

روح میں زندگی ایک فتح مند مسیحی زندگی ہے۔ رومیوں 8: 23-38 میں مقدس پولس رسول اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ کوئی چیز ہمیں اپنے باپ کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ ہماری فتح یقینی ہے۔ کوئی اس فتح کو ہم سے چھین نہیں سکتا۔

وہ لوگ جو مسیح کے ہو جاتے ہیں، وہ تبدیل شدہ لوگ بن جاتے ہیں۔ انہیں مسیح اور اُس کی راہوں کی جستجو کے لیے ایک نیا دل اور نیا ذہن دے دیا جاتا ہے۔ پاک روح انہیں اپنا مسکن بنا لیتا ہے۔ انہیں خدا کے روح سے قوت ملتی ہے اور وہ اُس کی رہنمائی میں چلتے اور اُس سے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ پاک روح کی خواہش ہوتی ہے کہ مسیح کی راہوں میں اُن کی رہنمائی کرے۔ کیوں کہ مسیح نے ہمیں ایک نیا دل اور نیا ذہن دیا ہے۔ ہم میں یہ استعداد پیدا ہو گئی ہے کہ ہم اُس کے روح کی آواز سن سکیں اور اُس کی رہنمائی میں آگے بڑھ سکیں۔ کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہمیشہ ہی تابعدار رہیں گے۔ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ گناہوں کی معافی کی یقین دہانی، نئے دل اور ہم میں خدا کے روح کی موجودگی کی صورت میں اب فتح ممکن ہے۔

پرانے عہد نامہ کے تحت خدا نے گناہ آلودہ فطرت والے لوگوں کو ماننے کے لیے ایسی شریعت اور قواعد و ضوابط اور آئین اور احکام دیئے جن کا تعلق دل کی تبدیلی سے نہیں تھا۔ وہ بری طرح ناکام ہو گئے۔ اس نئے عہد کے تحت خدا نے اپنے لوگوں کو ایک نیا دل دیا ہے، جس پر اُس نے اپنے قوانین اور آئین اور احکام لکھے ہیں۔ اُس نے انہیں اپنا پاک روح بھی دیا ہے جو انہیں خدا کی راہوں پر چلنے کے لیے رہنمائی اور قوت بخشتا ہے۔ پرانے عہد نامہ کا مقصد مسیح اور روح کی نئی راہوں کی طرف ہماری رہنمائی کرنا تھا۔ اب ایماندار کی زندگی میں یہ بلا ہٹ پائی جاتی ہے کہ وہ خدا کے روح کی رہنمائی اور ہدایت میں زندگی بسر کرے۔ کیوں کہ وہی ہمارا ایسا مددگار ہے جو تمام سچائی کی راہ اور عملی زندگی میں ہمارا مددگار اور رہنما ہے۔

فضل کے تحت زندگی گزارنا

اگرچہ ہم پرانے عہد نامہ کے ایماندار نہیں، تو بھی یاد رکھیں کہ ہم اپنی من مرضی کرنے کے لیے آزاد نہیں ہیں۔ اب تو فضل کے تقاضے اور بھی زیادہ ہیں کیوں کہ ہم زندہ خدا کا مسکن ہیں اور خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے۔

روح میں چلنا

اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں رہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت، پرستی، پرستی، جاوگرمی، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقہ، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور اور ان کی مانند۔ ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہے دیتا ہوں۔ جیسا کہ پیشتر جتنا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، قتل، مہربانی، نیکی، ایمان داری، حلم، پرہیز گاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے۔ اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رنجشوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہئے۔ ہم بے جا فخر کر کے نہ ایک دوسرے کو چڑائیں نہ ایک دوسرے سے چلیں۔ (گلتیوں 18:5-26)

بطور ایماندار ہمیں نئی فطرت دی گئی ہے۔ مقدس پولس رسول ہمیں رومیوں 7 باب میں یاد دلاتے ہیں کہ پرانی فطرت نئی فطرت کے خلاف جنگ کرتی ہے۔ ہمارے دل میں خداوند کے لیے تڑپ تو ہوتی ہے۔ لیکن ہمارا جسم کمزور ہونے کے سبب اکثر ہمارے لیے ٹھوکر کا باعث ہوتا ہے۔ جسم پر غالب آنے کے لیے پولس رسول نے ایمانداروں کو یہ چیلنج دیا کہ وہ روح کے موافق چلیں۔

مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ کیوں کہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ (گلتیوں 16:5-17)

اگر ہم فتح مند مسیح زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں لازماً یہ سیکھنا ہوگا کہ ہم کیسے روح میں چل سکتے ہیں۔ اصطلاح ”روح میں چلنا“ کا مطلب روح کی رہنمائی اور ہدایت کی بیرونی کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں پرانی فطرت کی

پرانی مقلکیں اور نئی سے

باتوں سے منہ موڑنا ہوگا۔ مقدس پولس رسول مذکورہ حوالہ میں اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ پرانی فطرت کی خواہشیں اور رغبتیں پاک روح اور اس نئی فطرت سے قطعی مختلف ہیں جو اُس نے ہمارے اندر پیدا کر دی ہے۔ ایمانداروں کو روح کی رہنمائی اور پرانی فطرت کی خواہشوں میں امتیاز کرنا سیکھنا ہوگا۔ اپنی پرانی فطرت اور روح کی ہدایت اور رہنمائی میں امتیاز پہلا قدم ہے۔ تاہم ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا کے روح کی ہدایت و رہنمائی اور تعلیم کی پیروی کو اپنی اولین ترجیح بنالیں۔

وہ لوگ جو روح کی رہنمائی میں چلتے ہیں خدا کے روح اور اُس کی راہوں کے لیے اپنے ذہن اور مرضی کو نظم و ضبط اور تربیت میں لا کر خدا کے لیے بہت حساس ہو جاتے ہیں۔ وہ پرانی فطرت کی آواز سننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ بطور ایماندار آپ کے پاس ایک چناؤ ہوتا ہے؟ ہر کام جو ہم کرتے ہیں اُس میں یا تو ہم اپنی پرانی فطرت کی سنتے یا پھر خدا کے روح کی رہنمائی میں چلتے ہیں۔ مقدس پولس رسول گلٹیوں 19:5-21 میں ہمارے لیے بیان کرتے ہیں کہ جب ہم اپنی پرانی فطرت کی طرف کان لگاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے۔

اَب جسم کے کام تو ظاہر ہیں یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، بھگڑا، حسد، غصہ، تفرقہ، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور اور ان کی مانند۔ ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہے دیتا ہوں۔ جیسا کہ پیشتر بتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔

ہمیں گناہ آلودہ فطرت کے پھل کے شواہد کو اپنی زندگی میں دیکھنے کے منتظر نہیں رہنا چاہئے۔ ہمارے ٹی وی پر آنے والے خبر نامے ایسے لوگوں کی خبروں سے بھرے ہوئے ہیں جنہوں نے پرانی فطرت کی طرف کان لگایا۔ اور بھی دکھ اور صدمے کی بات یہ ہے کہ حتیٰ کہ ایمانداروں کی زندگی میں بھی پرانی فطرت کے کاموں کے پھل دیکھنے کو ملتے ہیں۔ حرام کاری، تنگی اور بھگڑے پرانی فطرت کی طرف کان لگانے اور اُس کی رغبتوں اور خواہشوں کے سامنے سرخم کرنے کے نتائج ہیں۔

بطور ایماندار ہمیں نئی فطرت دی گئی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ابھی تک پرانی فطرت پورے طور پر

پرانی مقلکیں اور نئی سے

ہماری زندگی سے ختم نہیں ہوئی۔ حتیٰ کہ ایماندار بھی گناہ آلودہ فطرت کو موقع اور پلک دے سکتے ہیں کہ دستیاب موقع پر اپنا رد عمل ظاہر کرے۔ جو پروگرام ہم ٹیلی ویژن دیکھتے اور وہ کتابیں جو ہم پڑھتے ہیں اکثر و بیشتر ہماری پرانی انسانیت کی رغبتوں اور خواہشوں کو ہوا دیتے ہیں۔ بطور ایماندار ہمیں اپنے چال چلن اور طرز زندگی کا جائزہ لیتے رہنا چاہئے۔ کہیں ہم اپنی گناہ آلودہ فطرت کے لیے سامان مہیا تو نہیں کر رہے؟ ایک بات تو یقینی ہے، پرانی فطرت اس بات کا تقاضا کرے گی کہ اُسے زندہ رہنے کیلئے مختلف طریقوں سے خوراک ملتی رہے۔ اُسے ایسا ماحول ملے کہ اُسے تقویت ملتی رہے اور اُس کی رغبتوں اور خواہشوں کو تھوڑی ذہیل دے دیں اور پھر اپنی زندگی میں اُسکے بڑھتے ہوئے اثرات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اگر ہم وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس کے لیے خدا نے ہمیں بلا یا ہے تو پھر ہمیں پرانی گناہ آلودہ فطرت اور اُس کی رغبتوں اور خواہشوں کی طرف سے مرنا ہوگا۔ گلتیوں 24:5 میں مقدس پولس رسول کی تعلیم بالکل واضح ہے۔

اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اُس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔

ایمانداروں کے لیے پرانی فطرت کی رغبتوں اور خواہشوں پر غالب آنے کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اپنے آپ کو صلیب پر کھینچ دیں۔ یعنی لازم ہے کہ ہم اس پرانی فطرت کو مرنے پر مجبور کر دیں۔ مصمم ارادہ سے پرانی فطرت کی نہ سنیں۔ جب یہ بلائے تو اپنے کان بند کر لیں۔ جب یہ زندہ بھی ہو تو پھر بھی گناہ آلودہ فطرت کو مردہ ہی سمجھیں۔ اس پر دھیان دینے بغیر زندگی گزاریں۔ اسے رد کریں اُس کی طرف کان نہ لگائیں۔ اسے مرنے پر مجبور کر دیں۔

بطور نئے عہد کے ایماندار ہمیں گناہ آلودہ رغبتوں اور خواہشوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنے بلکہ ہمیں خدا کے پاک روح سے رہنمائی لینی چاہئے۔

روح کی راہیں جسم کی راہوں سے قطعی مختلف ہوتی ہیں۔ گلتیوں 22:5-23 میں پولس رسول خدا کے روح کی ہدایت کی بیرونی میں چلنے اور اُس کو اپنی زندگی میں کام کرنے کا موقع دینے کے نتائج بیان کرتے ہیں۔

پرانی مہکتیں اور نئی سے

مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایماندار، علم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے۔

روح میں چلنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم مسیح کے اُس پاک روح کی رہنمائی اور ہدایت کے تابع ہو جائیں جو ہم میں بسا ہوا ہے۔ جب ہم خدا کے روح کی رہنمائی اور ہدایت کے سامنے جھک جاتے ہیں تو پھر بہت سی باتیں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔

اول۔ وہ ہم میں مسیح کے کردار کو پیدا کرتا ہے۔ جب ہم خدا کے روح کے کام اور اُس کی رہنمائی کی اطاعت قبول کر لیں گے، تو پھر ہم گلتیوں 22:5-23 میں مندرج پھلوں کے بڑھتے ہوئے شواہد کو اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ جو کچھ بھی ہم کریں گے ہم مسیح کی مانند بنتے چلے جائیں گے۔ بشرطیکہ ہم پاک روح کے سامنے جھک جائیں اور اُسے موقع دیں گے کہ وہ ہماری تجدید نو کرے۔ ایسے جیسے اندر سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، وہ ہم میں مسیح کے کردار کو ایک سیلاب کی طرح لے آئے گا۔

دوم۔ پاک روح کا دوسرا کام ہمیں سچائی کی راہ دکھانا ہے۔ یوحنا 13:16 میں خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو واضح کیا کہ ایک ایماندار کی زندگی میں پاک روح کی ایک بنیادی خدمت یہی ہوگی۔

لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا بلکہ جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔

روح میں چلنا ہمارے روزمرہ کے مطالعہ بائبل مقدس کی ذمہ داری کو ختم نہیں کرتا۔ درحقیقت یہ 2۔ بطرس 21:1 سے بالکل واضح ہے کہ خدا کا پاک روح ہی دراصل کلام مقدس کا مصنف ہے۔

لیکن نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوتی بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف

سے بولتے تھے۔

جب ہم پاک روح کی خدمت کو دل سے قبول کرتے ہوئے اُس کی اطاعت قبول کر لیتے ہیں تو پھر وہ کلام کے گہرے فہم اور فراست کے لیے ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے۔ کیوں کہ کلام مقدس ہی سے خدا کے دل کی باتیں ہم پر ظاہر ہوتی ہیں اور ہم اس دنیا کے لیے اُس کے مقصد کو سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ کیوں کہ بائبل مقدس پاک روح کی تحریک سے لکھی گئی ہے۔ اگر ہمیں روح میں چلنا ہے تو پھر ہمیں بائبل مقدس کے طالب علم بننا ہوگا۔

پاک روح کی تیسری خدمت ہم میں الہی چیزوں کی اشتہا اور روحانی بھوک پیاس پیدا کرتا ہے۔ فلپیوں کی کلیدیا کو لکھتے ہوئے مقدس پولس رسول نے کہا۔

پس اے میرے عزیز بھائیو! جس طرح تم ہمیشہ سے فرمانبرداری کرتے آئے ہو اسی طرح اب بھی نہ صرف میری حاضری میں بلکہ اس سے بہت زیادہ میری غیر حاضری میں ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کئے جاؤ۔ کیوں کہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادہ کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے۔ (فلپیوں 2:12-13)

غور کریں کہ پولس رسول نے ایمانداروں کو بتایا کہ خدا نے اُن میں اپنی مرضی کو پورا کرنے اور اپنے نیک ارادہ کو انجام دینے کے لیے کام کیا۔ ہم اس نکتہ کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ پاک روح کے وسیلہ سے خدا اپنے لوگوں کو اپنی مرضی سے معمور کر دیتا ہے تاکہ اُس کے ارادہ کے موافق کام کر سکیں۔ کتنی دفعہ میں نے اپنے آپ کو خدا کی راہوں کی پیروی کرنے کی خواہش سے خالی پایا؟ بعض اوقات پرانی فطرت کا کھچاؤ اور کشش اس قدر پر زور ہوتی ہے کہ مجھے خدا کی مرضی کو سہرا انجام دینا مشکل لگتا ہے۔ جب میں خود کو پاک روح کے کام کے تابع کرتے ہوئے اُسے پکارتا ہوں تو پھر وہ نیک کام کو سہرا انجام دینے کے لیے مجھ میں مرضی اور ارادہ پیدا کرتا ہے۔ وہ اس دنیا کی چیزوں کی خواہش اور رغبت کے زور کو برباد کر دیتا ہے۔ وہ ہی مجھے عالم بالا کی چیزوں کا مشتاق ہونے میں میری مدد اور رہنمائی کرتا ہے۔

چہارم۔ خدا کا پاک روح خدا کے مقصد اور مرضی کی طرف ہماری رہنمائی کرے گا۔ اعمال کی کتاب پر طائرانہ نظر

پرانی مہکتیں اور نئی سے

ڈالنے سے ہی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیسے خدا کے پاک روح نے کلیسیا کے بزرگوں، ڈیکنز اور رابرہنماؤں کو اپنی مدد اور رہنمائی میں آگے بڑھنے کا فضل دیا۔ اعمال 29:8 میں پاک روح فلپس کو صحرا میں لے گیا تاکہ وہ جمشی خوجہ سے کلام کی بات کر سکے۔ اعمال 2:13 ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح پاک روح نے کلیسیا کی رہنمائی کی کہ وہ پولس اور برنہاس کو خدمت کے کام کے لیے مخصوص کر دیں۔ اعمال 22:20 میں پولس رسول پاک روح کی رہنمائی سے یروشلیم گیا۔ پاک روح ہم پر وہ خدمت ظاہر کرے گا جس کے لیے خدا نے ہمیں بلا یا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ وہ اُس کے نام کی منادی کے سبب گرفتار ہونے کی صورت میں اس بات کے لیے قطعاً فکر مند نہ ہوں کہ وہ کیا کہیں گے۔ کیوں کہ خدا کا روح انہیں بولنے کے لیے الفاظ اور ترتیب دے گا۔

لیکن جب وہ تم کو پکڑو اُسیں تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح کہیں یا کیا کہیں۔ کیوں کہ جو کچھ کہنا ہوگا اُسی گھڑی تم کو بتایا جائے گا۔ کیوں کہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے۔ (متی 10-19:20)

خدا کا روح ہمارا رہنما اور مشیر ہوگا۔ وہی ہم پر باپ کی مرضی کو ظاہر کرے گا اور ہمیں حکمت اور دانائی سے معمور کرے گا تاکہ ہم وہی بولیں جو درست اور واجب ہے۔

اور آخری بات یہ ہے کہ خدا کا روح ہمیں مسیح کے نام سے خدمت کرنے کے لیے قوت بخشنے گا تاکہ ہم وہی کریں جو اُس کے دل کے عین مطابق ہے۔ یہ اعمال 1:8 کی بالکل واضح تعلیم ہے۔

لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلیم، یہود یہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ جب اعمال کی کتاب میں ایمانداروں پر خدا کا روح نازل ہوا تو حالات و واقعات اُن کے لیے یکسر تبدیل ہو گئے۔ اُن کی خدمت میں ایک قوت پیدا ہو گئی۔ اُنہوں نے اپنے اندر ایک بڑی جرأت اور دلیری کا تجربہ کیا جو کہ اس سے پہلے اُن میں نہ تھی۔ خدا کے روح نے زندگیوں کو چھونا شروع کیا اور کلیسیا میں ترقی اور بڑھوتی کا کام

پرانی مقلکیں اور نئی سے

شروع ہو گیا۔ یہ اُن کی زندگی میں پاک روح کے قوت بخش کام کا نتیجہ تھا۔

یہ ہے روح کے نئے طور پر خدمت کرنا۔ اگر ہمیں روح میں چلنا ہے تو پھر لازم ہے کہ ہم اُسکی رہنمائی کو پہچاننا سیکھیں۔ پاک روح آکر از خود ہماری ذات اور مرضی پر قابض نہیں ہو جاتا۔ وہ توقع کرتا ہے کہ ہم اُس کے ساتھ تعاون کریں۔ یہی وجہ ہے کہ کلام پاک میں جسم کے اعتبار سے مرنے اور روح کی رہنمائی میں چلنے کا بہت بڑا چیلنج پایا جاتا ہے۔ ہر ایک ایماندار کو شخصی طور پر اس بات کے لیے جانفشانی کرنی چاہئے کہ وہ روح کے تابع زندگی گزارے اور جسم کے اعتبار سے یعنی پرانی انسانیت کے اعتبار سے بالکل مر جائے۔ روح القدس ہمیں نافرمانی کے لیے بھی چناؤ دیتا ہے۔ وہ ہماری آرزو اور مرضی اور آزادی کو ہم سے نہیں چھینتا۔ یہ سچ ہے کہ وہ رہنمائی کرتا اور ہدایت دیتا ہے۔ لیکن یہ ہمارا فیصلہ اور چناؤ ہے کہ ہم اُس کی مرضی کے سامنے جھک جائیں۔ ہم پاک روح کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی نافرمانی اور اُس کی رہنمائی میں چلنے میں ہٹ دھرمی سے کام لیتے ہوئے اُس کو رنجیدہ بھی کر سکتے ہیں۔ روح میں چلنے کا مطلب ہے اپنے ہوش و ہوا میں اُس کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اُس کی رہنمائی اور تربیت لینے کا فیصلہ کرنا۔

روح کے تقاضے

تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریک کا مقابلہ نہ کرنا بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر طمانچہ مارے دوسرا بھی اُس کی طرف پھیر دے۔ اور اگر کوئی تجھ پر نالاش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چونہ بھی اُسے لینے دے۔ اور جو کوئی تجھے ایک کوس بیگا میں لے جائے اُس کے ساتھ دو کوس چلا جا۔ اور جو کوئی تجھ سے مانگے اُسے دے اور جو تجھ سے قرض چاہے اُس سے منہ نہ موڑ۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دُعا کرو۔ تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو۔ کیوں کہ وہ اپنے سورج کو نیکیوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے۔ اور راستہ بازوں اور ناراستوں دونوں پر مینہ برساتا ہے۔ (متی 5: 38-45)

شاید بعض لوگوں کا یہ خیال ہو کہ اب مسیحی زندگی گزارنا آسان ہونا چاہئے کیوں کہ اب ہم شریعت کے ماتحت نہیں رہے۔ لیکن ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اب خدا ہم سے اور بھی زیادہ توقع رکھتا ہے۔ لوقا 12: 48 میں بڑی اہم آیت پائی جاتی ہے۔

مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کے کام کیے وہ تھوڑی مار کھائے گا۔ اور جسے بہت دیا گیا اُس سے بہت طلب کیا جائے گا اور جسے بہت سونپا گیا ہے اُس سے زیادہ طلب کریں گے۔“

خداوند یسوع مسیح ہمیں یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں کو بہت سونپا گیا ہے اُن سے بہت طلب کیا جائے گا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں کی معافی پائی ہے۔ ہمیں ایک نیا دل دیا گیا ہے۔ اور اب ہماری زندگی پاک روح کا مسکن بن چکی ہے۔ اگر خدا اُن لوگوں سے وفاداری کی توقع کرتا تھا جن کے پاس یہ خوبصورت نعمتیں اور

پرانی مقلبتیں اور نئی سے

بخششیں نہیں تھیں تو پھر ہم سے کس قدر زیادہ توقع کرے گا؟ اگر ہم موسیٰ کی شریعت اور پہاڑی وعظ کا موازنہ کریں تو خدا کی توقعات کے اہم نکات نمایاں ہو جائیں گے۔

متی 5:21 میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ قتل نہ کریں۔ یہ قانون ماننے کے لیے اتنا مشکل بھی نہیں تھا۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے کبھی بھی ایسا بھیا تک گناہ نہیں کیا ہوگا۔ عہد جدید میں خداوند یسوع مسیح نے یہ تعلیم دی کہ کسی کے ساتھ اس قدر ناراض ہو جانا کہ اُسے قتل کرنے کی سوچ بنالینا اپنے دل میں کسی کا قتل کرنا ہے۔ ایسی سوچ قتل کرنے کے مترادف ہے اور یہ قتل جیسے گناہ کا مرتکب ہونا ہے۔

متی 27:5-28 میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے پرانے عہد نامہ نے شادی شدہ لوگوں کے درمیان ناجائز جنسی تعلقات کو ممنوع قرار دیا۔ شوہر کا فرض تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ وفادار رہے۔ اور بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ وفادار رہنے کا حکم دیا گیا۔ تاہم یسوع مسیح نے تعلیم دی کہ ایک ایسی زناہ کاری بھی ہے جو جسمانی تعلق کے بغیر بھی ہو جاتی ہے۔ ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے دل میں کسی کی بیوی کی خواہش کر لینا زناہ کاری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص نے کبھی بھی کسی عورت کے ساتھ کوئی ناجائز جنسی تعلق استوار نہ کیا ہو۔ تو بھی وہ زناہ کاری کا مرتکب ہوا ہو۔ اس سے مجھ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میں میری نگاہیں ٹہلی ویرن پر کیا دیکھتی ہیں اور میری سوچوں پر کون سی چیزیں مسلط رہتی ہیں۔ ہمیں اپنی نگاہ اور تخیلات کے تعلق سے بھی محتاط ہونے کی ضرورت ہے تاکہ خداوند کے لیے پاک برتن بن سکیں۔

موسیٰ کی شریعت نے تو طلاق کی اجازت دی۔ جب کسی شخص کو اپنی بیوی کی ناپاکی کا علم ہو جاتا تو وہ اُسے طلاق دے سکتا تھا۔ (استثنا 1:24) لیکن یہودی لوگوں کے ذہنوں میں بالکل واضح نہیں تھا کہ کون کون سی چیزیں ناپاکی کے زمرے میں آتی ہیں۔ نتیجہ مرد حضرات معمولی سے اختلاف کی بنا پر بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے تھے۔ تاہم خداوند یسوع مسیح نے یہ تعلیم دی کہ ماسوائے زناہ کاری کی وجہ کے طلاق کی اجازت نہیں ہے۔ (متی 5:31-32)

پرانے عہد نامہ نے تعلیم دی کہ جب لوگ قسم کھائیں تو اپنی بات پر قائم رہیں۔ تاہم یسوع مسیح نے یہ تعلیم دی کہ ایماندار کو چاہئے کہ وہ ہر صورت میں اپنی بات پر قائم رہے۔ (متی 5:33-37)

پرانی مقلکین اور نئی سے

موسیٰ کی شریعت نے یہ اصول سکھایا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، جو کچھ لوگ چرائیں وہ واپس کر دیں۔ اگر کوئی شخص مجھے ایسا شئی کر دے کہ میری آنکھ جاتی رہے تو جو کچھ اُس نے مجھ سے کیا ہے، ادا لے کے بدلے کے طور پر اُس کی آنکھ بھی نکال دی جائے۔ جو کچھ کسی مجرم نے مجھ سے کیا ہے ضرور ہے کہ وہی اُس کے ساتھ بھی سزا کے طور پر کیا جائے۔ خداوند یسوع مسیح نے منفرد تعلیم دی۔ اُس نے اپنے شاگردوں کو سکھایا کہ اگر کوئی تیرے ایک گال پر مارے تو دوسرا بھی اُس کی طرف پھیر دے۔ ایمانداروں کا یہ شیوہ نہیں کہ وہ بدلہ لیں۔ بلکہ یہ کہا کہ اپنی املاک کا نقصان قبول کر لو۔ (متی 5:38-42)

پرانی عہد نامہ کے تحت ایمانداروں پر فرض تھا کہ وہ اپنے ہمسایوں سے محبت رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق بس اتنا ہی کافی نہیں ہے۔ بلکہ اب ایمانداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے بھی پیار کریں۔ (متی 5:43-44)

اگر پرانی عہد نامہ کے ایماندار موسیٰ کی شریعت پر عمل پیرا نہ ہو سکے، تو پھر کیسے خدا ہم سے اس نئے اور اعلیٰ معیار پر پورا اترنے کی توقع کر سکتا ہے؟ یہاں بہت سے ایسے اصول ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔

اول۔ چونکہ وہ معیار جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے وہ پرانی عہد نامہ کے معیار سے کہیں بلند ہے، تو بھی خدا نے اپنے حضور مقبولیت کی بنیاد اس معیار پر نہیں رکھی کہ ہم کتنے اچھے طریقے سے تمام تقاضے پورے کرتے ہیں۔ بالفاظ دیگر ہم اس معیار پر پورے اتریں یا نہ اتریں ہم خدا کے حضور قبول کیے جاتے ہیں۔ ہماری نجات کا انحصار اس بات پر نہیں کہ ہمارے اعمال کتنے اچھے ہیں۔ ہماری نجات کا معاملہ خداوند یسوع مسیح نے ایک ہی دفعہ قربانی دے کر حل کر دیا ہے۔ اگر ہم اس معیار پر پورا نہ بھی اتریں تو بھی خدا ہم سے کسی طور پر بھی کم محبت نہیں رکھے گا۔ اور اگر ہم اس معیار پر پورا اتر بھی جائیں تو وہ ہم سے زیادہ محبت نہیں رکھے گا۔ ہمارے لیے اُس کی محبت غیر مشروط ہے۔

دوم۔ اگرچہ ہماری نجات اور قبولیت کا انحصار اس بات پر نہیں ہے کہ ہم خدا کے قائم کردہ معیار پر کس قدر زیادہ پورا اترتے ہیں تو بھی خدا کے ساتھ ہماری رفاقت اور اس دنیا کے لیے مؤثر خدمت کا انحصار اسی بات پر ہے۔ مثال

پرانی مشکلیں اور نئی سے

کے طور پر خدا کے ساتھ ہماری رفاقت میں ناپاک خیالات اور بڑی خواہشات رکاوٹ کا باعث بن سکتی ہیں۔ ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کے خلاف غصہ اور تلخی سے پاک روح کو رنجیدہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی بات پر قائم نہیں رہتے تو ہماری خدمت بڑی طرح متاثر ہوگی۔ کیوں کہ لوگ ہم پر بھروسہ نہیں کر سکیں گے۔ اگر ہم خدا کے ساتھ اپنی گہری رفاقت کے خواہاں ہیں اور اُس کے لیے مؤثر خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کلام میں بیان کیے گئے معیار کے مطابق چلنا ہوگا۔

سوم۔ مقدس پولس رسول 2 کرنتھیوں 10:5 میں بتاتے ہیں کہ ہم سب اپنے کاموں کے لیے خدا کے حضور جوابدہ ہوں گے۔

کیوں کہ ضرور ہے کہ مسیح کے تحت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے تاکہ ہر شخص اپنے اُن کاموں کا بدلہ پائے جو اُس نے بدن کے وسیلہ سے کیے ہوں۔ خواہ بھلے ہوں خواہ برے۔

یہ بات سچ ہے کہ ہم میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو کامل طور سے خدا کے قائم کردہ معیار پر پورا اتر سکے۔ لیکن خدا ہمیں بلاتا ہے کہ ہم اُس معیار پر پورا اترنے کے لیے جانفشانی سے کام لیں۔ ہمارے کاموں کے مطابق ہماری عدالت ہوگی اور ہم اپنی وفاداری کا بدلہ پائیں گے کہ ہم ان معاملات میں کس قدر اُس کی رہنمائی میں چلتے رہے۔ آخری بات۔ یاد رکھیں کہ ایک ایماندار کا دل خدا اور اُس کی راہوں کا طالب رہتا ہے۔ خدا کا روح ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ جب ہم اپنی گناہ آلودہ فطرت کے اعتبار سے مڑ کر خود کو پاک روح کی خدمت کے تابع کر دیں گے تو پھر ہم زیادہ سے زیادہ خدا کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ پاک روح کے تقاضے پرانے عہد نامہ کے تقاضوں سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ لیکن خدا نے اپنے معیار کے مطابق زندگی بسر کرنے کیلئے ہمیں ضروری ہتھیار بھی دیئے ہیں۔ جیسے جیسے ہم پاک روح کے ساتھ شراکت کرتے ہیں ہم ایمان اور روحانی بلوغت میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس دنیا پر ہمارا تاثر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور جب ہم تابعداری میں بلند معیار کو چھونے لگتے ہیں تو پھر خدا کے ساتھ ہماری رفاقت گہری قربت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

اختلافات ختم کریں

کمزور ایمان والے کو اپنے میں شامل تو کر لو، مگر خشک و شبہ کی نگراروں کے لیے نہیں۔ ایک کو اعتقاد ہے کہ ہر چیز کا کھانا رواں ہے۔ اور کمزور ایمان والا ساگ پات ہی کھاتا ہے۔ کھانے والا اُس کو جو نہیں کھاتا حقیر نہ جانے اور جو نہیں کھاتا وہ کھانے والے پر الزام نہ لگائے۔ کیوں کہ خدا نے اُس کو قبول کر لیا ہے۔ (رومیوں 14: 1-3)

موسیٰ کی شریعت نے لوگوں کو بتایا کہ کب اور کیسے انہوں نے خدا کی عبادت کرنی ہے۔ وہ کہاں رہ سکتے ہیں، کب کام کر سکتے ہیں، وہ کن لوگوں سے رشتے نا طے قائم کر سکتے ہیں، وہ کیا کھا سکتے ہیں اور اپنے لباس کے لیے کون سی چیزوں کو استعمال میں لاسکتے ہیں۔ مسیح کی آمد سے ان سب باتوں میں کافی حد تک تبدیلی آئی۔ ابتدائی کلیسیا کے ایماندار کے اعمال قطعی مختلف تھے۔ بعضوں نے کچھ چیزوں کا کھانا جاری رکھا جبکہ بعض ایمانداروں نے وہی کچھ کھایا جو ان کا دل چاہتا تھا۔ (رومیوں 2: 14) بعضوں نے کچھ دنوں کو دوسرے دنوں سے زیادہ مقدس سمجھا جبکہ بعض کا خیال تھا کہ سبھی دن ایک جیسے ہیں۔ (رومیوں 5: 14) مقدس پولس رسول کے مطابق، اگرچہ ان ایمانداروں میں اختلاف تھا تو بھی وہ سب کے سب جو کچھ کر رہے تھے خداوند کے لیے کر رہے تھے اور ایسا کرنے سے وہ اپنے اپنے انداز سے خدا کی تعظیم کر رہے تھے۔

جو کسی دن کو مانتا ہے وہ خداوند کے لیے مانتا ہے اور جو کھاتا ہے وہ خداوند کے واسطے کھاتا ہے۔ کیوں کہ وہ خدا کا شکر کرتا ہے اور جو نہیں کھاتا وہ بھی خداوند کے واسطے نہیں کھاتا اور خدا کا شکر کرتا ہے۔ (رومیوں 6: 14)

مقدس پولس رسول ہمیں رومیوں 14 میں سے ایک مثال دیتے ہیں۔ پولس رسول کے دور میں بعض ایماندار محسوس کرتے تھے کہ انہیں بتوں کے لیے کی گئی قربانی کا گوشت نہیں کھانا چاہئے۔ مقدس پولس رسول نے روم کے

پرانی مہکتیں اور نئی سے

ایمانداروں کو بتایا کہ وہ نئے عہد کے تحت جو چاہیں کھا سکتے ہیں بشرطیکہ اُن کا ضمیر اس سلسلہ میں ملامت نہ کر رہا ہو۔

مجھے معلوم ہے بلکہ خداوند یسوع مسیح میں مجھے یقین ہے کہ کوئی چیز بذاتِ حرام نہیں لیکن جو اُس کو حرام سمجھتا ہے اُس کے لیے حرام ہے۔ (رومیوں 14:14)

جو کچھ ایک ایماندار کے لیے قابلِ قبول ہے، ہو سکتا ہے دوسرے کے لیے وہ قابلِ قبول نہ ہو۔ یہ ہمارے دور کے فلسفہ کی مانند دکھائی دیتا ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قطعی سچائی نہیں ہے اور یہ کہ ہم کسی کو دکھ دیئے بغیر جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ درست نہیں ہے۔ خدا کا کلام جو پاک روح کی تحریک سے ہم تک پہنچا ہے۔ وہ ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے کہ کون سی چیزیں قابلِ قبول ہیں اور کون سی چیزیں خدا سے علاقہ نہیں رکھتیں۔ تمام ایمانداروں کو اُس معیار کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بلا یا گیا ہے۔ یہ کہنے کے بعد ہمارے لیے دو اہم صداقتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اول۔ خدا کا پاک روح ہمیشہ ہماری ایک ہی ڈگر پر رہنمائی نہیں کرتا۔ یہ ممکن ہے کہ ایک ایماندار کسی نہ کسی سبب سے اپنے لیے بعض چیزوں کو نہ کھائے اور بعض کاموں سے اجتناب کرنے کیلئے پاک روح کی رہنمائی محسوس کرے تاکہ وہ اپنی زندگی میں خدا کی مخصوص بلاہٹ کو بہتر طور پر انجام دے سکے۔ ہو سکتا ہے کہ پاک روح کسی شخص کو غربت میں زندگی بسر کرنے کے لیے بلائے جبکہ کسی دوسرے کو بلند معیار زندگی گزارنے کے لیے۔ ممکن ہے کہ کسی کی بلاہٹ اپنا وطن چھوڑ کر کسی غیر ملک میں خدمت کرنا ہو۔ جبکہ کسی کی بلاہٹ اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے درمیان خدمت کرنا ہو۔ خدا کا پاک روح خدا کے جلال کے لیے مختلف سمتوں میں ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔

مجھے یاد ہے کچھ برس پہلے جب میں ایک کلیسیا میں تھا تو وہاں کے پاسنانوں کی بلاہٹ شخصی بشارت کی خدمت تھی۔ ہر ایک پیغام جو ہم نے سنا، وہ نجات پانے اور کھوئے ہوؤں تک پہنچنے کے تعلق سے تھا۔ کیوں کہ یہ وہ بوجھ تھا جو خدا نے اُن خادموں کے دلوں اور زندگیوں پر رکھا تھا۔ وہ لوگوں کو ابھارتے تھے کہ اپنے آس پڑوس میں جاؤ اور لوگوں کے دروازوں پر دستک دو اور انہیں انجیل سناؤ۔ لوگ ایسا نہ کرنے کی صورت میں خود کو احساسِ جرم میں دباوا دیکھتے تھے۔ یہ خاص بلاہٹ خدا نے مجھے نہیں دی تھی۔ میرا بوجھ یہ تھا کہ ایماندار روحانی نشوونما پائیں۔ جس طور سے خدا کا پاک روح میری رہنمائی کر رہا تھا وہ اُس رہنمائی سے قطعی مختلف تھی جس میں کلیسیا کے پاسنان چل رہے تھے۔

پرانی مقلدیں اور نئی سے

ہم اپنی روحانی نعمت اور بلاہٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا کے کام کو دیکھتے ہیں۔ بالفاظ دیگر اگر خدا نے آپ کو مبشر ہونے کے لیے بلا یا ہے تو یہ دیکھنا قدرے مشکل ہے کہ ہمارے بھائی بھی ہماری طرح دوسروں کے لیے درد محسوس کیوں نہیں کرتے۔ خدا کا پاک روح ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک مخصوص مقصد رکھتا ہے اور ہم میں سے ہر ایک کی مختلف سمتوں میں رہنمائی کرے گا۔

اپنے بہن بھائیوں کی بہ نسبت نہ صرف پاک روح کی رہنمائی ہماری زندگی میں مختلف ہوگی، بلکہ خدا کے لیے ہمارا رد عمل بھی دوسرے ایمانداروں سے قطعی مختلف ہوگا۔ پولس کے دور میں ایمانداروں میں اس بات پر اختلاف رائے تھا کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار کیسے کرتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کیسے ابتدائی ایماندار بعض چیزوں کو کھاتے تھے۔ یہ پاک روح کی رہنمائی کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی۔ ممکن ہے کہ ان ایمانداروں کے دل سے خدا کے لیے یہ محبت بھرا اور مخلصانہ رد عمل ہو۔ ممکن ہے کہ انہوں نے بعض چیزوں کو نہ کھانے کا چناؤ خدا سے محبت اور عقیدت کی بنا پر کیا ہو۔ دیگر ایمانداروں نے خدا سے محبت کی بنا پر بعض دنوں کو دوسرے دنوں سے زیادہ مقدس جاننے کا فیصلہ کیا ہو۔ کیوں کہ ان ہی کے بھائی بہن جو ان کھانوں سے پرہیز کرتے ہوں اور بعض دنوں کو مقدس بھی نہ جانتے ہوں ممکن ہے کہ ان کے نزدیک یہ سب بے معنی ہو۔ ہم سب کی مختلف شخصیات اور ترجیحات ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ طریقہ عبادت جو کسی ایک کو اچھا لگتا ہے کسی دوسرے کے لیے وہ خوشگوار نہ ہو۔

درحقیقت وہ یہ چاہتا ہے کہ جو شخصیت خدا نے ہمیں دی ہے ہم عبادت اور خدمت میں اُسکی تعلیم و تربیت کرتے ہوئے اُسکو آگے بڑھائیں۔ اسکا مطلب ہے کہ خدا کے لیے ہماری عبادت اور پرستش کا انداز ایک دوسرے سے قطعی مختلف ہوگا۔

کئی سالوں سے ہم ایمان مسیحیوں کے درمیان یہ اختلافات تفرقات و فرقہ بندیوں اور ذہنی الجھاؤ کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ جب خدا مختلف سمتوں میں اپنے بچوں کی رہنمائی کرتا ہے تو ہم ان اختلافات سے کیسے نپٹتے ہیں؟ ان اختلافات کے پیش نظر ہمارا رد عمل کیسا ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے ارد گرد مختلف انداز کے حقیقی اظہار ایمان کو دیکھتے ہیں تو ہمارا رد عمل کیسا ہونا چاہئے؟ مقدس پولس رسول رومیوں 14 باب میں چند اہم اصول ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔

پرانی مہکتیں اور نئی سے

سب سے پہلے اس بات کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ یہ اختلافات ہماری روزمرہ معاشرتی زندگی کا معمول ہیں۔ ہمیں اختلاف رائے کی توقع کرنی چاہئے۔ یہ ہمارے لیے کوئی ناگہاں ذہنی الجھن کا باعث نہ ہوں۔

ایک کو اعتقاد ہے کہ ہر چیز کا کھانا رواں ہے اور کمزور ایمان والا ساگ پات ہی کھاتا ہے۔ (رومیوں 14:2)

کوئی تو ایک دن کو دوسرے سے افضل جانتا ہے اور کوئی سب دنوں کو برابر جانتا ہے۔ ہر ایک اپنے دل میں پورا اعتقاد رکھے۔“ (رومیوں 14:5)

ہمیں اس بات کی توقع کرنی چاہئے کہ ایمانداروں میں بھی اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ اور یہ اختلاف رائے ترقی کا باعث ہوتا ہے۔ خدا خدمت کے مختلف علاقوں میں ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ ہم مختلف شخصیات کے وسیلہ سے اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں۔

دوم۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ہم سے مختلف ہیں ہم انہیں حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔

کھانے والا اُس کو جو نہیں کھاتا حقیر نہ جانے اور جو نہیں کھاتا وہ کھانے والے پر الزام نہ لگائے۔ کیوں کہ خدا نے اُس کو قبول کر لیا ہے۔“ (رومیوں 14:3)

ہمیں کسی شخص کو محض اس لیے رد نہیں کرنا کیوں کہ وہ ہماری طرح پاک روح کی رہنمائی کو محسوس نہیں کرتا اور یہ کہ وہ اپنے ایمان کے اظہار کے طریقہ کار کے لیے کوئی خاص بوجھ اور دباؤ محسوس نہیں کرتا۔ عاجزی اور انکساری سے ہمیں اپنے اُن بہن بھائیوں کو قبول کر لینا چاہئے۔ جن کے اعمال اور اظہار ایمان ہم سے قطعی مختلف ہو۔ (رومیوں 14:3) ہمیں ایسے لوگوں کو حقیر نہیں جانا چاہئے کیوں خدا ہے جو انہیں قبول کر چکا ہے۔ خدا صرف یہ دیکھتا ہے کہ اُن کے اعمال کیسے دل اور کس نیت سے ہیں۔ اپنے بہن بھائیوں کو رد کرنے سے ہم اُس کو رد کر رہے ہیں جن کی عبادت اور خدمت کو خدا نے قبول کر لیا ہے۔

پرانی مقلبتیں اور نئی سے

ہمارے دور کی کلیسیا ہمیشہ ہی سے اختلافات کو قبول کرنے میں اچھی نہیں رہی ہے۔ معمولی سے تعلیمی اختلاف نے کلیسیاؤں میں تفرقے اور جدائیاں پیدا کر دی ہیں۔ ایماندار ایک دوسرے سے محض اس لیے رفاقت نہیں رکھنا چاہتے کیوں کہ وہ بعض نکات اور طرز زندگی پر متفق نہیں ہیں۔ بطور مسیحی ہمیں ان اختلافات کو قبول کر لینا چاہئے جو حقیقی ایمانداروں میں موجود ہیں۔ اور ہمیں ان اختلافات کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہئے۔

اگر ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کے اس اظہار ایمان کے طریقہ کار کے حق کی قدر کریں جو ہم سے قطعی مختلف ہے تو پھر یہ ہمارے اعمال و افعال سے عیاں ہوگا۔ غور سے سنیں کہ مقدس پولس رسول روم کے ایمانداروں سے کیا کہتے ہیں۔

(رومیوں 13:14)

پس آئندہ کو ہم ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں بلکہ تم یہی ٹھان لو کہ کوئی اپنے بھائی کے سامنے وہ چیز نہ رکھے جو اُس کے ٹھوکر کھانے یا گرنے کا باعث ہو۔

پولس رسول نے روم کے ایمانداروں کو بتایا کہ اگر وہ واقعی اپنے بھائیوں اور بہنوں کے مختلف ہونے کے حقوق کی قدر کریں۔ تو دو طریقوں سے اس کا اظہار ہوگا۔ اول۔ وہ اُن پر الزام لگانا چھوڑ دیں گے۔ دوم۔ وہ اُن کے لیے باعث ٹھوکر نہیں ہوں گے۔

اگر میں اپنے ہم ایمان شخص کے مجھ سے مختلف ہونے کے حق کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں تو پھر میں ہمیشہ اُس کے اعمال و افعال کے لیے اُس پر الزام تراشی نہیں کرتا رہوں گا۔ جب آپ خود کو ہر دفعہ ایک مخصوص صورتحال میں دیکھیں کہ آپ کے بھائی اور بہنیں آپ سے قطعی مختلف طریقہ سے اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ آپ اُن کی عدالت کر رہے ہیں۔ اس مقام پر آپ کو خدا سے معافی مانگنی چاہئے۔ اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کو قبول کرنے کے لیے خدا سے فضل مانگیں۔

نہ صرف ہمیں اپنی عدالت کرنے والی روح اور رُو یہ کو تبدیل کرنا ہوگا بلکہ ہمیں اپنے اعمال و افعال میں تبدیلی پیدا

پرانی مقلکیں اور نئی سے

کرنے کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ چونکہ ہم ایسے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں جن کے اعمال و افعال ہم سے قطعی مختلف ہیں۔ جب مجھے معلوم ہے کہ میرا بھائی گوشت یا کوئی اور مخصوص چیز نہیں کھاتا تو پھر اُسے کھانے میں وہی چیز پیش کرنا یا اُسکے سامنے وہی چیز کھانا واجب نہیں ہوگا۔ ایسا کرنا اُس کے لیے باعثِ شہو کر ہوگا۔ اگر میں واقعی اپنے بھائی کے مقام کی عزت کرتا ہوں۔ تو پھر میں اپنے اعمال اور افعال اور باتوں سے اُسے مجبور کیے بغیر کہ وہ خود کو یا اپنے طرز زندگی کو تبدیل کرے۔ اُسے قبول کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔

صرف اختلاف رائے کو قبول کر لینا ہی کافی نہیں ہے۔ بعض اوقات ایمانداروں کو اپنے بھائیوں اور بہنوں کی خاطر اپنی آزادی کو قربان کرنے کیلئے بھی کہا جائے گا۔ پولس رسول نے تمہیں اس بات کے لیے آمادہ کیا کہ وہ یہودیوں کی خاطر ختنہ کروالے۔ (اعمال 1:16-3)

چونکہ تمہیں ختنہ نہیں ہوا تھا، اُس نے محسوس کیا کہ یہ صورت حال یہودیوں کو کلام سنانے میں رکاوٹ کا باعث ہو سکتی ہے۔ پولس رسول جانتے تھے کہ تمہیں کو خدا کے حضور راستا بظہر کرنے کے لیے ختنہ کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں نے ختنہ کروانے کے لیے خدا کی طرف سے کوئی مخصوص رہنمائی بھی محسوس نہ کی ہو۔ تمہیں ختنہ کروانے کے فیصلہ کا تعلق یہودیوں کے درمیان خدمت میں حائل رکاوٹ دور کرنا تھا، جو خداوند تک رسائی کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ تمہیں نے یہودیوں تک رسائی کے لیے اپنے حق کو قربان کر دیا۔

اپنی خدمت کے شروع سے آخر تک پولس رسول نے اپنے حقوق اور آزادیوں کو قربان کر دیا تاکہ بہتر طریقے سے اُن لوگوں تک رسائی حاصل کر سکے جو گناہ میں کھوئے ہوئے تھے۔ اُس نے زکرتھس کے باشندوں کو بتایا۔

اگرچہ میں سب لوگوں سے آزاد ہوں، پھر بھی میں نے اپنے آپ کو سب کا غلام بنا دیا ہے تاکہ اور بھی زیادہ لوگوں کو کھینچ لاؤں۔ میں یہودیوں کے لیے یہودی بنانا کہ یہودیوں کو کھینچ لاؤں۔ جو لوگ شریعت کے ماتحت ہیں میں اُن کے لیے شریعت کے ماتحت ہوا تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو کھینچ لاؤں۔ اگرچہ خود شریعت کے ماتحت نہ تھا۔ بے شرع لوگوں کے لیے بے شرع بنانا کہ بے شرع لوگوں کو کھینچ لاؤں۔ اگرچہ خدا کے نزدیک بے شرع نہ تھا۔ بلکہ مسیح کی شریعت کے تابع تھا۔ کمزوروں کے لیے کمزور بنانا کہ کمزوروں کو کھینچ لاؤں۔ میں سب آدمیوں کیلئے سب کچھ بنا ہوا

پرانی مہکتیں اور نئی سے

ہوں۔ تاکہ کسی طرح سے بعض کو بچاؤں اور میں سب کچھ انجیل کی خاطر کرتا ہوں۔ تاکہ اوروں کے ساتھ اُس میں شریک ہوؤں۔ (1۔ کرنتھیوں 9:19-23)

خدا کا روح مختلف طریقوں سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ بطور ایماندار ہمارے نکتہ نظر اور شخصیات ایک دوسرے سے قطعی مختلف ہوتے ہیں۔ کلام پاک ہمیں اس بات کے لیے آمادہ کرتا ہے کہ ہم ان اختلافات کو قبول کر لیں اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ صلح اور سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔

روح کے تقاضے

ہم اپنی زندگی میں روح کے تقاضوں کو مختصر طور پر کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ آج کے دور میں ہماری زندگی کے لیے پاک روح کے کون سے رہنما اصول موجود ہیں؟

دوسروں سے کریں

پس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی اُن کے ساتھ کرو کیوں کہ تو ریت اور نیوں کی تعلیم یہی ہے۔ (متی 12:7)

اور اُن میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اُس سے پوچھا، 'آے اُستاد تو ریت میں کونسا حکم بڑا ہے؟ اُس نے اُس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے۔ اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان ہی دو حکموں پر تمام تو ریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ (متی 22:35-40)

آپ کیسے 'روح میں چلنا' کو مختصر بیان کریں گے؟ ایک موقع پر ایک ایسے ہی ملتے جلتے سوال کے ساتھ فریسی یسوع مسیح کو آزمانے کے لیے آئے۔ آے اُستاد تو ریت میں کونسا حکم بڑا ہے؟ (متی 22:36) خداوند یسوع مسیح نے اُنہیں بتایا کہ وہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت کریں اور اپنے ہمسایہ سے بھی اپنی مانند محبت رکھیں۔

ایک ایسے ہی موقع پر خداوند یسوع مسیح نے متی 12:7 میں ایک ایسی ہی بات کہی۔ 'پس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، وہی تم بھی اُن کے ساتھ کرو۔ کیوں کہ تو ریت اور نیوں کی تعلیم یہی ہے۔

ہم نے پچھلے باب میں دیکھا کہ پولس رسول نے ایمانداروں کو چیلنج دیا کہ اُن کے درمیان جو اختلاف ہیں وہ اُن کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔

اُس نے انہیں چیلنج دیا کہ وہ دوسروں کے لیے اپنی شخصی آزادی کو قربان کر دیں۔ خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر یہ تعلیم دی ہے کہ روح میں چلنے کی خوبیوں کی بیان کی جا سکتی ہے۔ دوسروں کو اول درجہ دیں اور اُن سے ایسا سلوک کریں جیسا کہ ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے ہم سے کریں۔

ایک لمحہ کے لیے اس پر غور کریں۔ خداوند یسوع مسیح نے جو تعلیم یہاں پر دی ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں تو کتنی زیادہ مشکلات اور مسائل سے بچ سکتے ہیں؟ آج کے دور میں تعلقات میں اس قدر کھچاؤ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنے تعلق سے بہت خود غرض بن چکے ہیں اور دوسروں کی ہمیں مطلق فکر نہیں ہوتی۔ کسی نے کسی موقع پر کہا تھا کہ لفظ گناہ یعنی Sin کے درمیان (خودی، میں) ہے۔ گناہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یہ ہمیں دوسروں کی بجائے اپنی ذات پر ہی توجہ مرکوز کرنے کے لیے قائل کرتا ہے۔

گناہ پر کشش کیوں لگتا ہے؟ کیا اس لیے نہیں کہ یہ ہماری اپنی خواہشوں اور رغبتوں کو تسکین بخشتا ہے؟ گناہ دوسروں کی پرواہ کئے بغیر کہ اس سے دوسروں کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہونگے، ہمیں سب کچھ ہمارے دل کے موافق مہیا کرتا ہے۔ گناہ ہم سے کہتا ہے کہ ”کیا آپ اپنے ہمسائے کا کاروبار لینا چاہتے ہیں؟ اُسے اس سے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، اس کی فکر کیے بغیر اُس کا کاروبار ہتھیالو۔ کیا تمہارے دل میں اپنے ہمسایہ کی بیوی کو لینے کی حسرت ہے؟ اُسکے شوہر کی فکر نہ کرو۔ کیا تم دوسرے کے سامنے اچھا بننا چاہتے ہو؟ جو کچھ تم ہو اُس سے کہیں زیادہ تم لوگوں کو اپنے بارے میں بتاؤ۔ کیا آپ کے ہمسایہ نے آپ کی زندگی اجیرن کر دی ہے؟ تم اُس کے لیے وبال جان بن جاؤ۔“

گناہ دوسروں کے بارے میں نہیں بلکہ اپنے بارے ہی سوچتا ہے۔

روح میں نئے طور پر چلنا قطعی مختلف ہوتا ہے۔ مسیح کے روح اور ملنے والے نئے دل سے ہم میں دوسروں کے بارے میں سوچنے اور دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھنے کی صلاحیت پیدا ہوگئی ہے۔ وہ جو روح کے نئے طریقہ کار کے مطابق چلتے ہیں، وہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے اپنی آزادی اور آرام قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ روح کا نیا طریقہ کار دوسروں کے لیے محبت، عزت اور احترام اور ہمدردی کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ خدا کا روح صرف اپنے آپ کے بارے میں سوچنے کے رجحان کو ختم کر دیتا ہے۔

پرانی مشکلیں اور نئی سے

روح کا نیا طور طریقہ کار خود غرضی سے پاک ہوتا ہے۔ نیا دل جو خدا نے اپنے لوگوں کو دیا ہے وہ دوسروں کی ضرورت کے لیے حساس ہوتا ہے۔ یہ وہ دل ہے جو دوسروں کے لیے محبت کی قربانی میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس بات کا اظہار خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں بڑے بہترین انداز میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ جس نے اُس وقت ہمارے لیے اپنی جان قربان کی جب ہم ابھی اُس کے دشمن ہی تھے۔ وہ لوگ جو روح کے نئے طریقہ کار کی پیروی کرتے ہیں اپنے دشمنوں اور اپنے ہمسایوں کے لیے محبت بھری قربانی میں اپنے خداوند یسوع مسیح کے نمونہ پر چلتے ہیں۔

رحم

اُس نے اُن سے کہا کہ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ جب داؤد اور اُسکے ساتھی بھوکے تھے تو اُس نے کیا کیا، وہ کیوں کر خدا کے گھر میں گیا اور نذری روٹیاں کھائیں جن کو کھانا نہ اُس کو روا تھا نہ اُس کے ساتھیوں کو مگر صرف کانہوں کو؟ یا تم نے تو ریت میں نہیں پڑھا کہ کانہ سبت کے دن بیگل میں سبت کی بے حرمتی کرتے ہیں اور بے قصور رہتے ہیں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہاں وہ ہے جو بیگل سے بھی بڑا ہے۔ لیکن اگر تم اس کے معنی جانتے کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، تو بے قصوروں کو قصور دار نہ ٹھہراتے۔ (متی 12:3-7)

ایک دن خداوند یسوع مسیح کے شاگرد سبت کے روز گندم کے کھیتوں میں سے ہو کر جا رہے تھے۔ بھوک محسوس ہونے پر شاگردو بالیاں توڑ کر کھانے لگے۔ یہ صورت حال بھی پرانے عہد نامہ کی شریعت کے ضابطوں اور اصولوں کے زمرے میں آتی تھی۔ جو ایک شخص کو اپنے ہمسایہ کے کھیت میں سے بالیاں توڑنے کی اجازت دیتی تھی۔

جب تو اپنے ہمسایہ کے کھڑے کھیت میں جائے تو اپنے ہاتھ سے بلیں توڑ سکتا ہے۔ پر اپنے ہمسایہ کے کھڑے کھیت کو ہنسوانہ لگانا۔ (استثنا 23:25)

فریسی جو پاس کھڑے تھے انہوں نے سبت کے روز بالیاں توڑنے پر غور کیا۔ فریسی وہ لوگ تھے جو ہمیشہ ہی اس موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح پر کوئی الزام لگائیں۔ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی توجہ سبت کے روز بالیاں توڑنے کی طرف مبذول کروائی۔ اور کہا کہ شاگرد سبت کے روز بالیاں توڑ کر موسیٰ کی شریعت کو توڑ رہے ہیں۔

چھ دن کام کاج کرنا لیکن ساتویں دن آرام کرنا۔ بل جو سننے اور فصل کاٹنے کے موسم میں بھی آرام کرنا۔ (خروج 21:34)

خداوند یسوع مسیح نے فریسیوں کو یہ جواب دیا کہ کیسے داؤد اور اُسکے ساتھی خداوند کے گھر میں گئے اور وہ روٹیاں

پرانی مقلکیں اور نئی سے

کھائیں جنکا کھانا صرف کاہنوں کو روا تھا۔ (1 سموئیل 1:21-6) جب داؤد اور اسکے ساتھیوں نے وہ کیا جو موسیٰ کی شریعت کے خلاف تھا۔ (احبار 24:5-9) خداوند اُن کے اس کام پر اس لیے برہم نہ ہوا کیوں کہ اُس وقت شریعت سے بھی بڑا قانون یعنی رحم کا قانون نافذ تھا۔

داؤد کے آدمیوں کو خوراک کی ضرورت تھی۔ کاہن کے پاس دو میں سے ایک چنناؤ تھا۔ یا تو وہ داؤد اور اُس کے ساتھیوں کو بھوکا ہی رہنے دیتا اور شریعت کے لفظوں کی پیروی کرنے پر مجبور کرتا یا پھر اُن پر رحم دلی سے پیش آتے ہوئے اُن کی ضرورت کو پورا کرتا۔ کاہن نے شریعت کے اطلاق کی بجائے رحم کرنے کا چنناؤ کیا۔ خداوند یسوع نے انہیں بتایا کہ خدا کا ہن کے اس فیصلہ سے خوش ہوا۔ کیوں کہ وہ قربانی سے زیادہ رحم پسند کرتا ہے۔

فریسیوں کے ساتھ اس بات چیت کے بعد خداوند یسوع بیگل میں گئے۔ وہاں پر ایک شخص تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کو آزمانے کی غرض سے فریسیوں نے پوچھا کہ کیا سبت کی روز شفا دینا روا ہے یا نہیں۔ خداوند یسوع مسیح اُن کے دل سے واقف تھا اور اُن سے یہ سوال پوچھا۔

تم میں ایسا کون ہے جس کی ایک ہی بھیڑ ہو اور وہ سبت کے دن گڑھے میں جا گرے اور وہ اُسے پکڑ کر نہ نکالے۔
(متی 11:12)

یہودیوں کو سبت کے روز گڑھے میں سے گری ہوئی بھیڑ نکالنے میں کوئی دشواری اور رکاوٹ محسوس نہ ہوتی تھی۔ جانور پر رحم یا ترس کی بنا پر یا پھر بھیڑ کی قیمت کے پیش نظر اُس کو سبت کے دن بھی گڑھے سے نکال لیا جاتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے اُن سے پوچھا کہ کیا انسانی زندگی جانور سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اگر سبت کے روز جانور پر رحم کیا جاسکتا ہے۔ تو کیا ایسا ہی رحم اور ترس ایک انسان پر کرنا روا نہیں جو سبت کے روز دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہے۔ شریعت کے بے درد اطلاق سے رحم اور ترس کہیں زیادہ اہم تھا۔ متی 23:23 سے ظاہر ہوتا ہے کہ فریسی موسیٰ کی شریعت کی تابعداری میں کس قدر انتہا پسند تھے۔

اے ریاکار فقہوں اور فریسیوں تم پر افسوس کہ پودینا اور سونف اور زیرہ پر تودہ کچی دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ

بھاری باتوں کو یعنی انصاف اور رحم کو چھوڑ دیا ہے۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔

فریسی موسیٰ کی شریعت کے تعلق سے بڑے سنجیدہ تھے۔ وہ سونف اور پودینے پر بھی وہ کی دیتے تھے۔ جب وہ اس قدر گہرے طور پر شریعت کی پیروی کرنے میں سبقت لے چاہے تھے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ وہ ایک انتہائی اہم بات کو نظر انداز کر رہے تھے۔ وہ 'رحم' انصاف اور وفاداری پر عمل کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئے۔ اُن کی قربانیاں از خود غلط نہیں تھیں۔ خداوند یسوع مسیح جانتے تھے کہ فریسی سخت اور شریعت پرست لوگ تھے، جو شریعت کی تابعداری کرتے وقت دوسروں کی پرواہ بالکل نہیں کرتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے اُن کے بے رحم رویوں کے سبب اُن پر ملامت کی۔

رحم کے اصول کی ایک ایسی ہی حیرت انگیز مثال عین فعل کے وقت پکڑی جانے والی عورت کی کہانی میں ملتی ہے۔ (یوحنا 8) فریسی اُس عورت کو بہکل میں لے کر آئے۔ اور یسوع کے آگے لا کر کھڑا کر دیا۔ موسیٰ کی شریعت ایسی عورت کو سنگسار کرتے ہوئے موت کے گھاٹ اتارنے کا حکم دیتی تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ شخص آگے آئے اور پہلا پتھر مارے جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ خداوند یسوع مسیح جانتے تھے کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو اُس معیار پر پورا اتر سکے۔ اُس نے رحم دلی سے پیش آتے ہوئے اُس عورت کو معاف کر دیا۔

کچھ عرصہ پہلے کسی شخص نے مجھے ایک عجیب صورت حال کے متعلق ایک واقعہ سنایا جو اُس کی کلیسیا میں واقع ہوا۔ جو نبی عبادت شروع ہوئی تو پچھلی نشستوں پر بیٹھے ہوئے ایک شخص کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ اُس شخص کو دل کا دورہ پڑا ہے، ایک خاتون میرے دوست کے پاس مشورت کے لیے پہنچی کہ اب کیا کیا جائے۔ انتہائی خراب صورت حال کو دیکھتے ہوئے ایبولینس بلائی گئی۔ میرا دوست کواڑ لیڈر کے پاس گیا اور متعلقہ شخص کے لیے دومنٹ دُعا کرنے کے لیے درخواست کی۔ کواڑ لیڈر نے پرستش کی ترتیب اور بہاؤ پر غور کرتے ہوئے کہا ”جب ہد یا اٹھایا جائے گا تو اُس دوران ہم اس دُعا یہ درخواست کے لیے بھی دُعا کریں گے۔“ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ترتیب شدہ پروگرام میں کسی طرح کا خلل پیدا ہو۔ وہ شخص جو پیچھے کی طرف موت و حیات کی کشمکش میں تھا اُس کی اتنی بھی قدر و قیمت نہ تھی کہ اُس کے لیے عبادت روک کر خدا کے لوگ اُس کی سلامتی کے لیے خدا سے شفاعت کر سکتے۔

فریسیوں کا رڈ یہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔

تصور کریں کہ آپ کا کوئی دوست ہو جو بہت شدید زخمی ہوا ہو۔ یہ جانتے ہوئے کہ اگر اُسے جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے کر نہ گئے، تو وہ مر جائے گا۔ آپ اُسے اپنی کار میں ڈال کر جلدی سے ہسپتال لے جاتے ہیں۔ گاڑی چلاتے ہوئے آپ اپنے سامنے حد رفتار کا بورڈ دیکھتے ہیں۔ اگر آپ حد رفتار کی تابعداری کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی اپنے دوست کو وقت پر ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاسکتے۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس بھی دو میں سے ایک چناؤ ہوگا۔ آپ بھی اُن فریسیوں کی طرح کر سکتے ہیں، کہ اپنے دوست کو کار کی پچھلی نشست پر مرنے دیں اور خود اس سچائی سے لطف اندوز ہو کر آرام سے بیٹھے رہیں کہ آپ نے قانون کی پاسداری کی ہے۔ دوسرا چناؤ یہ ہے کہ آپ اپنے دوست پر رحم کریں اور اُس کی جان بچانے کی خاطر حد رفتار کے قانون کو توڑ دیں۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں سکھارہے ہیں کہ روح میں نئے طور پر چلنے کی بنیاد رحم اور ترس پر مبنی ہے۔

عین ممکن ہے کہ آپ نے خداوند اور اُسکے کام کے لیے بہت قربانیاں دی ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی قربانیاں دوسروں کے لیے باعث برکت ہوئی ہیں یا باعث لعنت؟ ایسی قربانیاں جن میں رحم اور ترس شامل نہ ہو خدا کے حضور قابل قبول نہیں ہوتیں۔ اگر ہم اپنے دوستوں بھائیوں، شریک حیات اور بچوں کو اپنی قربانیوں سے برباد کر کے رکھ دیں تو سمجھ لیں کہ ہم خدا کے حضور کچھ خدمت نہیں کر رہے۔ خدا کا دل رحم اور ترس سے بھرا ہوا ہے۔ اور وہ لوگ جو روح میں نئے طور پر چلتے ہیں وہ بھی رحم دلی سے پیش آئیں گے۔

دل کارویہ

اُس وقت یسوع نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہیں کہ تھبہ اور فریسی موسیٰ کی گلدی پر بیٹھے ہیں۔ پس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو۔ لیکن اُن کے سے کام نہ کرو۔ کیوں کہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ وہ ایسے بھاری بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں۔ مگر آپ اُنکو اپنی اُنکلی سے بھی بلانا نہیں چاہتے۔ وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ کیوں کہ وہ اپنے تعویذ بڑے بناتے اور اپنی پوشاک کی کنارے چوڑے رکھتے ہیں۔ اور ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانہ میں اعلیٰ درجہ کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام اور آدمیوں سے رُبی کہلانا پسند کرتے ہیں۔ (متی 23: 1-7)

دل کارویہ بہت اہم ہوتا ہے۔ تصور کریں کہ بطور ایک شوہر آپ اپنی شادی کی سالگرہ کے دن شام کے وقت اپنی اہلیہ کے لیے ایک تحفہ لیے گھر پہنچتے ہیں۔ آپ اُسے تحفہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ”ہر سال آپ کو تحفہ دینے کے لیے کچھ نہ کچھ ڈھونڈنے میں مجھے قطعاً لطف نہیں آتا لیکن تمہیں خوش کرنے کیلئے تحفہ تو دینا ہی پڑتا ہے۔ پس میں یہ تحفہ آپ کے لیے خرید لایا ہوں۔“ یہ کہہ کر آپ تحفہ میز پر پھیلتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ کے خیال میں آپ کی بیوی کا رویہ اور رد عمل کیسا ہوگا؟ کیا آپ کی بیوی تحفہ واپس پھینکنے کی آزمائش میں نہیں پڑے گی؟ اور آپ سے یہ نہیں کہے گی کہ ”اگر اسی رویہ سے تحفہ دینا ہے تو مجھے آپ کے تحفے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔“

کیا آپ نے کسی ایسے شخص کو سلام کیا ہے جس نے آپ کو یہ تاثر دیا ہو کہ وہ آپ کے سلام کا جواب دینے کی زحمت بھی نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن آداب تہذیب کی خاطر مجبوراً آپ کے سلام کا جواب دیا؟ اس صورت حال میں آپ کیسا محسوس کریں گے؟ کیا اُن کے رویے سے آپ کی عزت ہوئی؟ میں شخصی طور پر جانتا ہوں کہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ میں نے کوئی چیز اس لیے نہ خریدی کیوں کہ میں نے محسوس کیا سیلز مین نے بطور گاہک میری کوئی قدر ہی نہ کی۔

پرانی مٹھکیں اور نئی سے

خدا کے ساتھ اپنے رشتہ میں بالکل اسی اصول کا اطلاق ہوتا ہے۔ فریسی موسیٰ کی شریعت پر بڑی احتیاط سے عمل پیرا ہوتے تھے۔ لیکن بہت سی اہم باتوں کو چھوڑ جاتے تھے۔ مذکورہ حوالہ میں ہم نے دیکھا کہ وہ شریعت پر اس لیے عمل کرتے تھے تاکہ لوگ انہیں بڑے خاص لوگ سمجھیں۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ بڑے روحانی لوگ سمجھیں جائیں۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ اُن کے ولدادہ ہوں۔

متی 23 باب میں خداوند یسوع مسیح نے فریسیوں کو بہت دفعہ ملامت کی۔ کیوں کہ خدا اور اُسکی شریعت کے تعلق سے اُنکار و یہ درست نہیں تھا۔ فریسی چاہتے تھے کہ دوسرے یہ سمجھیں کہ وہ بڑے مذہبی لوگ ہیں۔ وہ عبادت خانوں میں اعلیٰ درجہ کا مقام چاہتے تھے۔ اُن کے لیے اس سے زیادہ اور کوئی خوشی نہ تھی کہ وہ پرانے عہد نامہ کی شریعت کے لیے وقف اور مخصوص تھے۔ وہ خدا سے زیادہ اپنا جلال اور عزت چاہتے تھے۔ شریعت تو ایک طرح سے اُن کی خود نمائی کا وسیلہ تھی۔ اُن کے تکبر کے باعث خدا کی فرماں برداری کو قبول نہیں کرتا تھا۔

خداوند یسوع مسیح نے فریسیوں کو اُس بیالہ سے تشبیہ دی جو باہر سے تو صاف ستھرا مگر اندر سے گندا ہو۔ اگر آپ کا کوئی دوست آپ کو ایسے بیالہ میں پینے کے لیے پانی دے تو کیا آپ اس میں اپنی عزت سمجھیں گے؟ خداوند یسوع مسیح نے فریسیوں کو سفیدی پھری ہوئی قبروں سے تشبیہ دی۔ باہر سے تو وہ بہت خوبصورت دکھائی دیتی تھیں لیکن اندر سے وہ گندگی ناپاکی اور تعفن سے بھری ہوئی تھیں۔ خدا کی خدمت کرنے میں اُن کا واحد مقصد اپنی عزت اور مقام بنانا تھا۔ خدا نے اُن کے رویہ کے باعث انکی عبادت اور ریاضت کو قبول نہ کیا۔

جب سمویل نبی اسرائیل کے لیے ایک نئے بادشاہ کی تلاش میں تھا تو ایسے نوجوان اُس کے سامنے آ رہے تھے جو بڑے قد آور اور خوبصورت تھے۔ خدا نے سمویل کو اُس دن ایک بہت اہم بات بتائی۔ 1۔ سمویل 16:7 میں ہم پڑھتے ہیں کہ

پھر خداوند نے سمویل سے کہا کہ تو اُسکے چہرہ اور اُسکے قد کی بلندی کو نہ دیکھ۔ اس لیے کہ میں نے اُسے ناپسند کیا ہے۔ کیوں کہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔

بظاہر جو کچھ ہم کرتے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر خدا ہمارے دل کے رویہ میں دلچسپی رکھتا ہے۔ تصور کریں کہ آپ کا بچہ سکول سے گھر آتا ہے، اُس کے پاس ایک ڈرائنگ کی ہوئی تصویر ہے جو اُس نے آپ کے لیے بنائی ہے۔ جب آپ اُس ڈرائنگ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اُس کی کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا بنا ہوا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ کاغذ کے ٹکڑے پر تیز انداز میں لکھی ہوئی بدخطی ہے۔ فنکارانہ معیار اور آنکھ سے دیکھیں تو اُس ڈرائنگ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کی قدر و قیمت ہے تو وہ آپ کے بچے کے دل کا رویہ ہے جس کے ساتھ اُس نے یہ ڈرائنگ آپ کے ہاتھوں میں تھمائی ہے۔ آپ اُس کے دل کی محبت کو دیکھتے ہیں۔ اور اُس چیز کو قبول کر لیتے ہیں جو شاید کسی اور کے لیے تو فضول اور بے فائدہ ہوگی۔ آپ اُسے لے کر دیوار پر لگا دیتے ہیں تاکہ سب دیکھ سکیں۔ اس ڈرائنگ کی قدر فن میں نہیں بلکہ اُس رویہ میں ہے جس سے یہ دی گئی ہے۔ خدا کا رویہ بھی ہمارے بارے میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اُسکی بادشاہت کے لیے ہماری تمام کاوشیں ادھوری اور نقص دار ہوتی ہیں۔ تاہم خدا ہمارے افعال و اعمال میں ہمارے دل کی محبت کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔

ایک دن خدا نے یسعیاہ نبی سے کلام کیا۔ اُس نے کہا کہ اُس کے لوگ زبان سے تو اُس کی تعریف کرتے ہیں پر اُن کے دل اُس سے دور ہیں۔ غور سے سنیں کہ خدا نے یسعیاہ نبی سے 13:29 میں کیا کہا۔

پس خداوند فرماتا ہے۔ چونکہ یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں لیکن اُن کے دل مجھ سے دور ہیں۔ کیوں کہ میرا خوف جو اُن کو ہوا۔ فقط آدمیوں کی تعلیم سننے سے ہوا۔

1۔ تیمتھیس 3:6-5 میں مقدس پولس رسول نے تیمتھیس کو اُن اُستادوں کے بارے میں آگاہ کیا جو مالی نفع کے خیال سے تعلیم دیتے تھے۔ جبکہ کسی اور مقام پر پولس رسول اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ مسیحی کارکنوں کو اُن کی خدمات اور کاموں کا معاوضہ دیا جانا چاہئے۔ اگر روپیہ پیسہ ہی ہماری خدمت اور کام کے پیچھے کارفرما ہو تو پھر سمجھ لیں کہ ہمارے دل کے محرکات درست نہیں ہیں۔ اور ہم خدا کی اُس طور سے عزت نہیں کر رہے جو اُس کی شان کے شایاں ہے۔

خدا کے لیے ہماری خدمات دل سے ہونی چاہئیں۔ غور سے سنیں کہ مقدس پولس رسول کرنتھس کے ایمانداروں کو بتا رہے ہیں کہ اُنہوں نے کیسے خداوند کے لیے دینا ہے۔

پرانی مشکلیں اور نئی سے

جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں بٹھرایا ہے اسی قدر دے۔ نہ دریغ کر کے اور نہ لاپرواہی سے۔ کیوں کہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ (2-کرنٹیوں 7:9)

پولس رسول اس بات کو یہاں پر بہت واضح کر دیتے ہیں کہ وہ لوگ جو دین اپنے دل کی خوشی اور رضامندی سے دیں۔ اگر آپ اپنا ہدیہ ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے تلک دلی اور غلط رویہ کے ساتھ دیتے ہیں تو پھر آپ خدا کی عزت نہیں کر رہے۔ جب ہم دل کی خوشی اور رضامندی سے ہدیہ جات لے کر آتے ہیں تو یہ خدا کے نزدیک قابل قدر ہوتے ہیں۔ شادمان دل خداوند کی خوشنودی ہے۔

مقدس پولس رسول ہمیں 1 کرنٹیوں 5:4 میں یہ یاد دلاتے ہیں کہ خداوند خدا ہمارے دل کے منصوبوں کو منکشف کرے گا۔ ہم اوروں کو تو بیوقوف بنا لیں مگر ہم خدا کو فریب نہیں دے سکتے۔ ”پس جب تک خداوند نہ آئے کسی بات کا فیصلہ نہ کرو، وہی تاریکی کی پوشیدہ باتیں روشن کر دے گا اور دلوں کے منصوبے ظاہر کر دیگا اور اُس وقت ہر ایک کی تعریف خداوند کی طرف سے ہوگی۔“

مذکورہ آیت میں دل کے منصوبوں کو ظاہر کرنے اور خداوند کی طرف سے سراہے جانے کے درمیان تعلق پر غور کریں۔ خدا ہمارے دل کے رویہ پر نظر کرتا ہے اور اسی کے مطابق ہماری عدالت کرتا ہے۔ کیا آپ خدا کی تعظیم کرنے کے خواہشمند ہیں؟ ہمارے دل کا رویہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ روح کے اس نئے دور اور نئے طریقہ کار میں خدا بے ڈلی پر مبنی تابعداری سے کہیں زیادہ کسی اور چیز کی تلاش میں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ پاک محرکات کے ساتھ دل سے اُس کی تابعداری کی جائے۔

محبت

آپس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرض دار نہ ہو۔ کیوں کہ جو دوسرے سے محبت رکھتا ہے اُس نے شریعت پر پورا عمل کیا ہے۔ کیوں کہ یہ باتیں کہ زناہ نہ کر، خون نہ کر، چوری نہ کر، لالچ نہ کر، اور اُن کے سوا اور جو کوئی حکم ہو، ان سب کا خلاصہ اس بات میں پایا جاتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ محبت اپنے پڑوسی سے بدی نہیں کرتی۔ اس واسطے محبت شریعت کی تعمیل ہے۔ (رومیوں 13:8-10)

اگر آپ کو روح کے نئے طریقہ کار کو ایک لفظ میں مختصر بیان کرنا پڑے تو وہ لفظ کون سا ہوگا؟ بلاشبہ وہ لفظ محبت ہی ہوگا۔ مقدس پولس رسول ہمیں مذکورہ حوالہ میں بتاتے ہیں کہ وہ شخص جو اپنے ہمسایہ سے محبت رکھتا ہے اُس نے ساری شریعت پر عمل کیا۔

جب خداوند یسوع مسیح سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا حکم کونسا ہے، تو انہوں نے جواب دیا۔

خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے۔ اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ (متی 22:37-39)

یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اگر ہم محبت کی راہ پر چلیں تو خدا اور اپنے ہمسایہ کے خلاف گناہ پر غالب آنا ہمارے لیے مزید کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔

پرانی مقلکیں اور نئی سے

ہمارے معاشرے میں محبت کو بیان کرنے کے بہت سے طریقہ کار پائے جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر جس چیز کو محبت قرار دیا جاتا ہے، وہ بائبل مقدس کی بیان کردہ تعریف کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ مقدس پولس رسول 1- کرنتھیوں 8-4:13 میں محبت کی درست فطرت کو بیان کرتے ہیں۔

”محبت صابر ہے اور مہربان۔ محبت حسد نہیں کرتی، محبت شہنی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں اور ناز بیجا کام نہیں کرتی۔ اپنی بہتری نہیں چاہتی۔ جنملائی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے، محبت کو زوال نہیں، نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی۔ علم ہو تو موٹ جائے گا۔“

حقیقی مسیحی محبت صابر اور مہربان ہوتی ہے۔ یہ محبت کبھی بھی حسد اور تکبر سے دوسروں کے خلاف رد عمل کا اظہار نہیں کرتی۔ اس میں گستاخانہ رویہ نہیں پایا جاتا۔ یہ کبھی بھی اپنے مفاد اور مطلب کو دوسروں پر ترجیح نہیں دیتی۔ یہ نہ تو آسانی سے غصے میں آتی اور نہ ہی کسی بدی پر بے دل اور رنجیدہ ہوتی ہے۔ مسیحی محبت آڑے وقت میں تحفظ دیتی، اعتماد کرتی اور ثابت قدم رہتی ہے۔ اس کو کبھی زوال نہیں ہوتا۔ نیا دل جو خداوند اپنے راستہ ز اور ایماندار لوگوں میں رکھتا ہے وہ اس انداز سے محبت کرنے کے قابل ہوتا ہے۔

آپ کبھی بھی خدا کی خدمت یا اس کی بیروی محبت کے بغیر نہیں کر سکتے کیوں کہ یہی اس کا اولین تقاضا ہے۔

مقدس پولس رسول 1- کرنتھیوں 13:1-3 میں اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ محبت کے بغیر ہماری ہر طرح کی بیداری بے معنی ہے۔

اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھٹھاتا پیٹل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب مجیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ

رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔

محبت ہی وہ لازمی عنصر ہے جو ہماری عبادت اور دینداری کو خدا کے حضور قابل قبول بناتا ہے۔ اگر ہم اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دیں اور خداوند اور اُسکے کام کے لیے اپنا بدن جلانے کو دے دیں تو ہم نے کوئی معرکہ نہیں مارا۔ محبت قربانی اور فرمانبرداری کے کاموں میں ایک جزو لازم ہے۔ آپ اپنے گھرانے کو روٹی کپڑا اور مکان تو دے سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھرانے کے افراد کی سالگرہ اور شادی کا دن یاد رکھ سکتے ہیں۔ آپ اُن کو تمام ضروریات مہیا کر سکتے ہیں۔ تو بھی بطور والدین یا شریک حیات اُن کے لیے آپ محبت جیسے جزو لازم کو اپنے رویہ میں شامل نہ کرنے کی کوتاہی کر سکتے ہیں۔

گلتیوں 2:6 میں مقدس پولس رسول کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اگر وہ پرانے عہد نامہ کی شریعت پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں تو پھر انہیں ایک دوسرے کا بوجھ اٹھانا ہوگا۔

”تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔“

پرانے عہد نامہ کی شریعت میں قربانی دینے والی محبت بھی شامل ہوتی ہے۔ اس میں خداوند یسوع مسیح کے کامل نمونہ کی پیروی بھی شامل ہے۔ جس نے اپنے لوگوں کی محبت کی خاطر اپنے آپ کو کوہ کلوری کی صلیب پر ایک قربانی کے طور پر دے دیا۔ محبت ہم میں دوسروں کیلئے وقت، توانائی اور وسائل کی قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرے گی۔ جو لوگ روح کے نئے طور پر چلتے ہیں محبت انہیں اپنے بھائیوں اور بہنوں کے بوجھ اٹھانے کے لیے ابھارتی ہے۔

آخری بات

موسیٰ کی معرفت دی گئی شریعت خدا کا بنی نوع انسان کے لیے ایک مکمل منصوبہ تھا۔ یہ ایک بہت اچھی شریعت تھی جس کا ایک خاص مقصد تھا۔ اس کا مقصد ہم پر اُس چیز کو عیاں کرنا تھا جس کا خدا ہم سے تقاضا کرتا تھا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ کوئی انسان بھی اس معیار پر پورا نہ اتر سکا۔ لیکن یہ بھی خدا ہی کا منصوبہ تھا۔ اس کا مقصد ہم پر اس بات کو عیاں کرنا تھا کہ ہماری اپنی کاوشیں کبھی بھی ہمیں خدا کے حضور راستہ نہیں بظہر سکتیں۔ اس شریعت کی وسیلہ سے خدا ہم پر ہماری نجات دہندہ کی ضرورت کو منکشف کرنا چاہتا تھا۔ درحقیقت اس شریعت میں نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح اور اُسکے کام کی بہت سی تصاویر پوشیدہ تھیں۔ موسیٰ کی شریعت کا مقصد کبھی بھی ہمارے مسئلہ کا حتمی حل بننا نہیں تھا۔ اُس نے تو ہمیں ہمیں مسئلہ کے اُس حل کے لیے تیار کیا جو خدا اپنے بیٹے یسوع مسیح میں پیش کرنے کو تھا۔

جب ٹھہرایا ہوا وقت آیا، تو خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو موسیٰ کی شریعت کے تمام تقاضے پورے کرنے کے لیے بھیجا۔ اُس نے ہمارے ماضی، حال اور مستقبل کے تمام گناہوں کا مکمل فدیہ دیا۔ اُس نے ہمارے اندر ایک نیا دل اور اپنا پاک روح رکھا تا کہ وہ ہمارا رہنما اور مددگار ہو۔ وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح اور اُسکے صلیبی کام کو قبول کر چکے ہیں وہ موسیٰ کی شریعت اور اُس کے تمام تقاضوں سے آزاد ہو چکے ہیں۔

اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ اب ہم اپنی من مانی کرتے پھریں۔ اب ہم سے خدا کی توقعات پرانے عہد نامہ سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ تاہم یہ دور نئی ہے۔ گناہ کا معاملہ ہمیشہ کے لیے مسیح کے وسیلہ سے ختم ہو چکا ہے۔ اس سے ہمیں ایک مختلف اور نئے منصوبے کے تحت خدمت کرنے کے لیے مخلصی اور تقویت ملتی ہے۔ اب ہمیں اس لیے اُس کی عبادت اور خدمت نہیں کرنی تاکہ ہم اُس کے حضور مقبول اور راستہ بظہر سکیں۔ کیوں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں پہلے ہی قبول کر لیا گیا ہے۔ اب تو ہم اُس کی محبت اور عقیدت میں اُس کی پرستش اور عبادت کرتے ہیں۔ دوم۔ یہ کہ مسیح نے ہمیں

پرانی مقلکیں اور نئی سے

ایک نیا دل دیا ہے۔ ایسا کہ اب ہمارے دل میں اُس کی بیروی اور خوشنودی کی خواہش پائی جاتی ہے۔ اُس کا پاک روح ہماری زندگی میں مسیح کے مقصد اور ارادہ کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اب ہمارے پاس وہ سب کچھ موجود ہے جو کہ خدا کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے۔

ہمارے لیے بطور ایماندار سب سے بڑا چیلنج پرانی فطرت کی گناہ آلودہ خواہشات اور خدا کے پاک کلام میں امتیاز کرنا ہے۔ کلام پاک ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ ہم جسم کے پرانے طور طریقوں کے اعتبار سے مرجائیں اور روح کے نئے طور پر چلنے کا انتخاب کریں۔ یہ ہمیشہ ہی آسان تو نہیں ہوگا۔ ہمیشہ ایمانداروں کو سراہا نہیں جائے گا۔ بہت سے لوگوں کو جسم کی خواہشوں اور دنیا کے پرانے طرز پر نہ چلنے کے سبب سے دکھ اٹھانا پڑے گا۔

بعض اوقات بہت سے ایمانداروں کو خدا کی کلیسیا میں ہی غلط سمجھا جائے گا۔ خدا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک مخصوص منصوبہ رکھتا ہے۔ خدا کا پاک روح ہماری شخصیات کو مسخ نہیں کر دیتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جسم میں زندگی گزارتے ہوئے غلط اظہار ایمان کے خطرے میں ہونگے۔ ہمیں مختلف اختلافات کو قبول کرنا اور اُن لوگوں کو نگاہِ قدر سے دیکھنا ہوگا جو ہم سے قطعی مختلف ہیں۔

پاک روح کی راہ سچائی کی راہ ہے۔ خدا کا روح ہمیشہ خدا اور اُس کے کلام کی گہری بصیرت کی طرف ہماری رہنمائی کرے گا۔ یہ قربانی کی راہ خدا اور اپنے ہمسایہ کے لیے محبت کی راہ ہے۔ روح کا طریقہ کار ہمیں مخلص ہونے کے لیے بتاتا ہے۔ یہ ریاہ کاری اور دکھاوے کو دور کر دیتا ہے۔ وہ لوگ جو روح کے نئے طور پر چلتے ہیں انہیں محبت بھرے دل سے عبادت اور پرستش کرنے کی تحریک ملتی ہے۔

میری خواہش ہے کہ ہر ایک قاری اس مختصر مطالعہ میں سے تین اہم سچائیوں کو قبول کرے۔ میں درج ذیل خیالات کے اظہار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔

اول۔ یہ کہ مسیح کا کام اُن سب کی نجات کے لیے کافی ہے جو اُس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں۔ آسمانی باپ

پرانی مقلکین اور نئی سے

کے حضور مقبول و منظور اور راستباز ٹھہرنے کے لیے اب ہمیں مزید کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ لوگ جو مسیح کے پاس آتے ہیں ان کے سارے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو آسمانی باپ قبول کرتا ہے اور کوئی چیز انہیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ نہ صرف مسیح کا کام آسمانی باپ کے سامنے ہمیں راستباز ٹھہرانے کے لیے کافی ہے بلکہ یہ ہمیں خدا کے معیار کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے درکار سب چیزیں مہیا کرتا ہے۔ مسیح کا کام ہمیں تبدیل کرتا ہے۔ اس کے پاک روح کی خدمت ہمیں قوت بخشتی ہے۔ اگر ہم اس کے پاک روح کی رہنمائی میں زندگی بسر کرنے کا چناؤ کریں تو مسیح میں ہمیں وہ سب کچھ ملتا ہے جو فتح مند مسیحی زندگی کے لیے درکار ہوتا ہے۔

دوم۔ چونکہ ہم مسیح یسوع میں پورے طور پر قبول کیے جا چکے ہیں، اس لیے اب ہم نئے منصوبہ کے تحت خدمت کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ اگر آج آپ اس سوچ اور خیال کے ساتھ اس کی پرستش، عبادت اور خدمت کر رہے ہیں کہ اس سے آپ اس کے حضور مقبول اور راستباز ٹھہریں گے تو پھر آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ آپ غلط سوچ کے تحت یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور اس کام کو سمجھنے میں ناکام رہے ہیں جو مسیح نے ہمارے لیے صلیب پر کیا ہے۔ ہم تو پہلے ہی پورے طور پر قبول کیے جا چکے ہیں۔ اب آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس سے آپ کے قبول کیے جانے میں کوئی منفی اور مثبت اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ ہمارے قبول کیے جانے کا معاملہ خدا کے حضور ہمیشہ کے لیے نپنا دیا گیا ہے۔ خدا کے ساتھ اپنی طرف سے باندھے گئے عہد کی پاسداری اور اس کے حضور قبول کیے جانے کی خواہش کو ترک کر دیں۔ اور محبت بھرے مخلص دل سے اس کی خدمت کرنے کا چناؤ کریں۔

آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے دل میں محبت صرف خدا تک محدود نہیں ہونی چاہئے، بلکہ اس کا دائرہ کار اس کے بچوں تک پھیلا ہونا چاہئے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم سب کی شخصیات اور ترجیحات مختلف ہوتی ہیں۔ خدا ہماری شخصیات کو ختم کرنے کے لیے نہیں آتا۔ وہ خدا کے کلام کے سیاق و سباق میں ہمارے ایمان کے انفرادی اظہار کی اجازت دیتا ہے۔ ہم سب اپنے اپنے انداز سے حالات و واقعات کو دیکھتے ہیں۔ بطور ایماندار ہمیں چاہئے کہ ہم اختلافات کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں اور انہیں قبول کر لیں۔

میری دعا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے والے اس طور سے روح میں چلنا سیکھیں۔ مصنف

لائٹ ٹومائے پاتھ منسٹری کے زیر انتظام کتابوں کی تقسیم

لائٹ ٹومائے پاتھ منسٹری (ایل ٹی ایم پی) کتابوں کی تصنیف اور تقسیم کی ایک ایسی منسٹری ہے جو کہ براعظم ایشیا لاطینی امریکہ اور افریقہ میں ضرورت مند مسیحی کارکنوں تک پہنچ رہی ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں بہت سے ایسے مسیحی کارکن بھی ہیں جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ بائبل ٹریننگ کے لیے جاسکیں یا اپنی شخصی ترقی اور خدمت کی بڑھوتی اور کلیدیائی ضرورت کے لیے بائبل سنڈی مواد خرید سکیں۔ زیر نظر کتاب کا مصنف ایکشن انٹرنیشنل منسٹریز کارکن ہے جو کہ پوری دنیا میں ضرورت مند مسیحی کارکنوں اور پاسانوں کے درمیان مفت یا قیٹا کتابوں کی تقسیم کے عزم کے ساتھ کتابیں لکھ رہا ہے۔

آج اس وقت تیس سے زیادہ ممالک میں ڈیوٹل منسٹری سیریز اور لائف ان دی کرائسٹ سیریز میں ہزاروں کتب منادی، سلسلہ تعلیم، بشارتی خدمت اور مقامی ایمانداروں کی روحانی ترقی اور نشوونما کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ ان سیریز میں یہ کتب ہندی، فرانسیسی، ہسپانوی اور ٹیلین کرپول زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں۔ ہمارا نصب و العین جہاں تک ممکن ہو زیادہ سے زیادہ ایمانداروں تک ان کتب کو مہیا کرنا ہے۔

لائٹ ٹومائے پاتھ منسٹری (ایل ٹی ایم پی) ایک ایسی منسٹری ہے جو ایمان کے سہارے چل رہی ہے اور پوری دنیا میں ایمانداروں کی مضبوطی اور حوصلہ افزائی کے لیے کتب کے تراجم اور تقسیم کے پیش نظر اپنی مالی ضروریات کے لیے خداوند پر توکل کرتی ہے۔

آپ سے گزارش ہے کہ کتب کے دیگر زبانوں میں تراجم اور تقسیم کے لیے دُعا کریں؟ شکر یہ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔

مصنف